

اما اعظم ابوحنیفہ کی حمد شانہ عظمت اور سات صحابہ کرام
سے ان کی ساتھ احادیث کی وایاں و رواہ کا تعارف

الْأَمْرُ الْجَوْهِرِيُّ

الأحاديث السبعة عن سبعة من الصحابة
الذين روى عنهم الإمام أبوحنيفة فدى الله عنه

تقديم وترجمہ مع متن

تألیف

ناصر السنّة أبوالکاظم عبد اللہ بن حسین حنفی نیشاپوری

ترجمہ فہیم احمد ثقلینی ازہری

مکتبہ امام اعظم دہلی



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَحَادِيثُ اَعْظَمِ اَبْوَعْنَيْفَهُ كَمُحَمَّدِ شَانَهُ عَظِيمَهُ اَوْرَسَاتُ صَحَابَهُ كَلَا
سَئَلَهُ اَنَّ کَيْ سَاتُ اَحَادِيثُ کَيْ رَأَيَاتُ وَرَوَاهُ کَانَتْ قَارَافُ

الْأَحَادِيثُ الْعَظِيمَةُ

تَقْدِيمٌ وَ تَرْجِمَهُ مَعْ جِنَنَ

الْأَحَادِيثُ السَّبْعَةُ عَنْ سَبْعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ
الَّذِينَ رَوَى عَنْهُمُ الْإِعْلَامُ أَبُو حَنِيفَةَ وَنَحْنُ اللَّهُ عَنْهُ

تَالِيفُ

ناصِرُ السَّنَةِ أَبُو الْكَارَمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنِ حَنْفَيْنِي شَافِعِي
عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَلَا إِنْهَاكُونَ

تَحْرِيكٌ

مُحَمَّدُ ظَفَرُ الدِّينِ بْرَ سَكَافِي

تَرْجِمَهُ

فَهِيمُ أَحْمَدُ شَقَّلِيْنِي أَزِيرِي

مَكْتَبَهُ اِمَامٍ اَعْظَمِهِ دَهْلِي



۲۲۵/۲ - اُرڈو سارکیٹ، میٹا گل، جامِعِ مسجدِ دہلی

Mob.: 9958423551, 9560054375

E-mail ID : nizamuddinnizami@gmail.com, razavikitabghar@gmail.com

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نیوائلدیشن ۲۰۱۲ء ★ کوئی صاحب بلا اجازت نہ لیں

اللهم اعني بالثبات

نام کتاب :

فہیم احمد سقلینی از هری

ترجمہ و تقدیم :

محمد ظفر الدین برکاتی

تحریک :

منظر محسن نعیمی

تحصیج :

مکتبہ امام اعظم دہلی - ۶

ناشر :

محمد امام الدین بستوی

باہتمام :

کامل احمد نعیمی

کپوزنگ :

۱۴۳۳ھ / ۲۰۱۲ء

سال اشاعت :

رضوی کتاب گرد و ہلی

تقسیم کار :

1100

تعداد اشاعت :

۶۲

صفحات :

ALL RIGHTS RESERVED TO PUBLISHER ©

Book Name	:	Imam-AL-Muhaddeseen
Translated By	:	Faheem Ahmad Saqlaini Azhari
Suggested By	:	Mohammad Zafruddin Barkati
Publisher	:	Maktaba Imam-e-Aazam Delhi-6
Publishing Year	:	2012/1434
Page	:	64 only

مہیں میں ملنے کا پڑ

● رضوی کتاب گرد نیبی گرد بھیونڈی مہارا شر ● رضوی کتاب گرد فاقہ کا پہلیکس بھیونڈی مہارا شر

● عرشی کتاب گرد 6-244، پتھر گٹی منڈی میر عالم روڈ، حیدر آباد

فهرست مضمون

تہذیب / انتساب	۱
۵	
۶	تقدیم لز فہیم احمد تقلیدی از ہری
۹	امام اعظم کی ولادت، نام، کنیت
۹	کنیت سے متعلق غلط فہمی کا ازالہ
۱۰	امام اعظم کے حق میں حضور ﷺ کی بشارت
۱۳	امام اعظم تابعی ہیں
۱۵	امام اعظم کے زمانہ میں بائیس صحابہ کرام باحیات تھے
۱۶	امام اعظم کے زمانہ میں باحیات صحابہ کرام ﷺ کے سنین وصال
۱۸	پانچ سال کی عمر میں سارے حدیث صحیح
۱۹	امام اعظم کے اخذ علم الحدیث کے مرکز
۲۰	کوفہ کی علمی تاریخ اور مذہبی حیثیت
۲۳	حرمین شریفین میں امام اعظم کا قیام
۲۵	امام اعظم اکابر صحابہ کرام کے علم الحدیث کے وارث
۲۸	امام اعظم نو، ائمہ اہل بیت نبوی کے علم الحدیث کے وارث
۲۹	امام اعظم اور دیگر ائمہ فقہ و حدیث کے شیوخ کی تعداد کا مقابل
۳۲	امام اعظم امام بخاری کے شیخ الشیوخ
۳۲	امام بخاری کی میلادیات کے راوی بھی امام اعظم کے تلامذہ
۳۵	امام اعظم سے امام بخاری کے عدم روایت کی وجہات پر بحث و تحقیق
۳۹	امام اعظم سے مروی احادیث
۴۰	اعلیٰ اسناد کے تین درجات

۲۱	عکس نمبر ا متن کتاب الصفة الاولی من الاصل من مکتبۃ الحرم المکی	۳۳
۲۲	عکس نمبر ۲ متن کتاب النمودج للنسخة الثانية من مکتبۃ الحرم المکی	۳۳
۲۳	متن الحديث	۳۶
۲۴	حدیث نمبر ا	۳۹
۲۵	حضرت عبد اللہ بن حارث بن جزء زبیدی <small>رض</small>	۳۹
۲۶	حدیث نمبر ۲	۵۰
۲۷	حضرت عبد اللہ بن انس <small>رض</small>	۵۱
۲۸	حدیث نمبر ۳	۵۲
۲۹	حضرت عبد اللہ بن ابی او فی <small>رض</small>	۵۲
۳۰	حدیث نمبر ۴	۵۳
۳۱	حضرت انس بن مالک النصاری <small>رض</small>	۵۳
۳۲	حدیث نمبر ۵	۵۵
۳۳	حضرت جابر بن عبد اللہ النصاری <small>رض</small>	۵۵
۳۴	حدیث نمبر ۶	۵۶
۳۵	حضرت معقل بن یسار <small>رض</small>	۵۶
۳۶	حضرت نمبر ۷	۵۷
۳۷	حضرت وائلہ اسقع <small>رض</small>	۵۷
۳۸	حدیث عائشہ بنت عمرو <small>رض</small>	۵۸
۳۹	ترجم صحابہ کرام کے مصادر و مراجع	۶۲

تَهْلِيَّه

سُلَطَانُ الْقُتُبِهَا إِمامُ الْحَدِيشِينَ حَفَرَتْ إِمَامُ أَعْظَمِ الْبَوْحَنِيفَةِ نَعْمَانُ بْنُ ثَابِتَ كُوفَىٰ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

(ولادت ٨٠ هـ بمقام كوفة - وفات ٥٤ هـ بمقام بغداد)

إِمامُ رَبَانِيٍّ، مَجْدُ الدَّالِفِ ثَانِيٌّ حَفَرَتْ شِخْ إِحْمَادُ فَارُوقِيٍّ حَنْفِيٌّ سَرْهَنْدِيٌّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالرَّضْوَانُ

(ولادت ١٧٩ هـ بمقام سرهند - وفات ١٠٣٢ هـ بمقام سرهند)

قَدْوَةُ الْأُولَى يَاءُ پِير طَرِيقَتْ حَفَرَتْ شَاهُ مَوْلَانَا شَرَافَتْ عَلَىٰ مِيَانَ قَادِرِيٍّ مَجْدُودِيٍّ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

(ولادت ١٣١٠ هـ بمقام كُوكَرَالَّه، بدائيون - وفات ١٣٨٩ هـ بمقام بُرْلَى شَرِيفَ)

انتساب

شِخْ طَرِيقَتْ رَهْبَرِ شَرِيعَتْ پِير وَرَشِيدَ حَفَرَتْ شَاهُ مُحَمَّدُ ثَقْلَيْنَ مِيَانَ قَادِرِيٍّ مَجْدُودِيٍّ
 (أَطْهَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عُمْرَهُ) صَاحِبُ سَجَادَهُ، خَانَقَاهُ عَالِيَّهُ شَرَافَقَيَّهُ، بُرْلَى شَرِيفَ
 عَالِمُ حَقُّ بِيَانِ حَفَرَتْ مَوْلَانَا حَفَظُ وَقَارِيٍّ صَوْفِيٍّ رَفَاقَتْ عَلَىٰ ثَقْلَيْنَ نَعْمَىٰ مَدْظُلَهُ الْعَالِيِّ
 اسْتَاذُ دَارِ الْعُلُومِ فِيَضَانُ شَاهُ ثَقْلَيْنَ، قَصْبَهُ كُوكَرَالَّه، ضَلْعُ بَدَائِيُّونَ (يُونَيْ)

طالب الف gioض والبركات

فيهم احمد ثقلين

١٠ محرم الحرام ١٣٣٣ھ ٢٥ نومبر ٢٠١٣ء بروز یکشنبه



لقد کم

یہ بات اہل سنت و جماعت کے لیے یقیناً خوش آئند ہے کہ رئیس اخیر مولا ناظمین اختر مصباحی حفظ اللہ کی تحریک پر صلح کشی نگر یوپی کی تنظیم "تحریک جماعت اہل سنت" کے زیر اہتمام عروں البلاد میں میں مورخہ ۲۱، ۲۲، ۲۳ دسمبر ۲۰۱۲ء امام اعظم ابوحنیفہ کی حیات و کارناٹے اور فقیہی اجتہادی خدمات سے متعلق ایک عظیم علمی اور تاریخی کام ہونے جا رہا ہے جو پانچ سالہ منصوبہ پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ امام اعظم کے توسل سے حضرت مصباحی صاحب کو صحت وسلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے تاکہ اس طرح کے تمام منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچ سکیں جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت اور نگ زیب عالمگیر جیسی شخصیات شامل ہیں۔

برصیر ہندوپاک کے اہل سنت و جماعت نے ان عظیم شخصیات کی طرف سے سخت غفلت اور تسامی برتی جس کا آج یہ نتیجہ تلاکہ امام اعظم ابوحنیفہ کے مقلدین کا اتنی فیصلہ حصہ امام اعظم کی اُن خدمات سے بھی ناواقف ہے جن کی بنیاد پر ان کی تقلید کرتا ہے۔ اسی طرح برصیر میں ایسی بے شمار عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی عمر مستعار کی ایک ایک سانس سواد اعظم اہل سنت و جماعت اور فقہ حنفی اسلامی کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں وقف کر دی مگر ہم نے چند شخصیات کو سواد اعظم سمجھ لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری نسل نو کے علماء بھی ان شخصیات کو اغیار کا مقتدی سمجھنے لگے۔ اس کی بڑی مثال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔

ہم اگر اسی طرح خواب غفلت میں پڑے سوتے رہے اور اب بھی نہ جاگے تو وہ دن دور نہیں جب ہمارا تاریخی اور علمی ورثہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور فتنہ غیر مقلدیت کا سیلاب ہماری عوام تو عوام بلکہ خواص کو بھی بہالے جائے گا۔ اس لیے فتنہ وہابیت و سلفیت پر قابو پانے کے لیے امام اعظم کی ہمہ جہت شخصیت پر کام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔

اللہ تعالیٰ تحریک جماعت اہل سنت کشی نگر کے ارکان واعوان اور اس سیمینار و کانفرنس کے متحرک وفعال رکن مولانا محمد ظفر الدین برکاتی کو جزاۓ خیر اور فیضان امام اعظم کے طفیل دارین

کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے کہ انہوں نے بروقت ایک ثابت اور ٹھوس قدم اٹھا کر منقی نظریات کے حاملین اور دیگر عظیم شخصیات اور نامور ان اسلام پر کام نہ کرنے والوں کو ایک تاریخی پیغام اور پائیدار جواب دیا ہے۔

محب مکرم مولانا محمد ظفر الدین برکاتی مدیر مسؤول ماہنامہ کنز الایمان دہلی نے راقم سطور کو اس کاروان قلم و قرطاس میں شامل کیا اور کچھ لکھنے کے لیے کہا تو ایک مضمون بعنوان

”امام اعظم کی صحابہ کرام سے ملاقات اور روایت حدیث“

لکھا، اس کے علاوہ ایک مختصر عربی کتاب کا اردو ترجمہ کرنے کے لیے کہا اور اصل کتاب سے پہلے امام اعظم اور علم حدیث کے تعلق سے ایک تفصیلی مقدمہ لکھنے کی فرماش کی۔ برکاتی صاحب کے اس حکم کی تقلیل حاضر خدمت ہے۔ یہ تفصیلی مضمون امام ابو حنیفہ امام الائمه فی الحدیث نامی کتاب سے مأخوذه ہے۔

جس کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ الرسائل الثلاث الحدیثیة نامی کتاب میں شامل تین رسالوں میں سے ایک رسالہ ہے۔ اس میں شامل تین رسائل یہ ہیں:

(۱) كتاب الأربعين المختارة من حديث الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. للإمام العلامة المحدث الفقيه الشيخ يوسف بن حسن بن عبد الهاذى الصالحي الدمشقي الحنبلي.

(۲) عوالى الإمام أبي حنيفة، للإمام الحافظ شمس الدين يوسف بن خليل الدمشقي الحنبلي.

(۳) الأحاديث السبعة عن سبعة من الصحابة الذين روى عنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله. للإمام الشیخ ناصر السنة أبي العکارم عبد الله بن حسين النيسابوري الحنفي.

الرسائل الثلاث الحدیثیة کے مرتب الشیخ لطیف الرحمن الحنفی الہندی ہیں جو مکتبۃ الحرمين، لنشر و التوزیع دبئی الامارات العربیۃ المتعددہ سے ۲۰۰۳ء میں شائع ہوئی ہے۔ پہلا رسالہ صفحہ ۱۲۲ تک ہے، دوسرا رسالہ ۱۲۵ سے ۱۵

تک ہے اور تیرار سالہ ۱۵۳ سے ۱۸۳ تک ہے۔ تیرے رسالہ کا مقدمہ اس فحات پر مشتمل ہے، اس رسالہ میں صرف سات حدیثیں ہیں اس لیے اصل متن صرف دو صفحہ میں ہے۔ اس کتاب کے دو قدیم مخطوطوں اور جدید طباعت کا عکس بھی شامل کتاب ہے۔

اس کتاب کے ترجمہ، تخریج، تحقیق اور ترتیب میں جن لوگوں کا علمی تعاون رہا میں تمہرے دل سے ان کا شکر گزار ہوں بالخصوص محقق علوم اسلامیہ مولانا شیخ اسید الحق قادری از ہری بدایوںی جو ہمیشہ نیک اور مفید مشوروں کے ذریعہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور عصر حاضر میں نئی نسل کے علماء اور خانقاہی شہزادوں کے لیے مشعل راہ ہیں اور مولانا محمد سلمان از ہری استاذ علوم الحدیث الجامعۃ الاسلامیہ قصبه روناہی ضلع فیض آباد جن کی علمی صحبت میں رہ کر علوم الحدیث کی تحصیل کا شوق پیدا ہوا۔

بڑی ناسی ہو گی اگر میں حافظ محمد عیاض تقلینی، حافظ ضمیر احمد تقلینی، حافظ محمد قیس تقلینی اور حافظ محمد افضل تقلینی کا شکریہ ادا نہ کروں کہ ان حضرات نے دارالعلوم کی بعض ذمہ داریوں سے بے نیاز کر کے آسانیاں اور سہولتیں مہیا کیں جس سے چند دن کی قلیل مدت میں یہ اہم کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر و علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمين

کتاب کے ترجمہ، تخریج، تحقیق اور ترتیب میں حتی الامکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ کسی طرح کی کوئی غلطی نہ رہے پھر بھی علوم الحدیث کے ماہرین اور تجربہ کار علماء کرام کی خدمت میں التماس ہے کہ اگر کوئی خامی نظر آئے تو بطور اصلاح مطلع کریں تاکہ آئندہ تصحیح کر دی جائے۔

اللہ بتارک و تعالیٰ امام اعظم کے مرقد انور پر رحمت و غفران کی بارش فرمائے اور ان کے علمی و روحانی فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمين یا مجيب السائلین بجاه سید المرسلین علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم۔

فہیم احمد تقلینی

فاضل جامعہ از ہر شریف، قاہرہ، مصر

دارالعلوم فیضان شاہ تقلینی، قصبه گرالاہ ضلع بدایوں، یوپی

موباہل نمبر: 09456279256

faheemahmad_92@yahoo.co.in



امام اعظم کی ولادت، نام و کنیت

سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کو فی رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت ۸۰ھ میں ہوئی۔ جبہوراً نہہ اسلام کے نزدیک یہی قول مقبول اور معروف و مختار ہے اور آپ کا وصال ۱۵۰ھ میں ہوا۔

آپ کا اسم گرامی ”نعمان“، کنیت ”ابوحنیفہ“ اور لقب ”امام اعظم“، مجتهد مطلق، امام الائمه، امام المسلمين، سراج الامم ہیں۔ آپ کے نام نعمان کے معانی دیکھنے کے بعد یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ درحقیقت اسم بامگی ہیں۔ امام ابن حجر عسکری شافعی نے آپ کے نام کے معانی دیکھ کر آپ کے یہ اوصاف بیان کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”الائمه اسلام اس پر متفق ہیں کہ آپ کا نام نعمان ہے اور اس میں یہ لطیف راز موجود ہیں:

(۱) نعمان کی اصل ایسا خون ہے جس سے بدن کا ذہانچہ قائم ہے (۲) نعمان کا معنی روح ہے پس امام ابوحنیفہ کی وجہ سے فقة اسلامی کا ذہانچہ قائم ہے اور آپ ہی فقة کی بنیاد ہیں (۳) نعمان کا معنی سرخ خوشبودار گھاس ہے یا ارغوان کے رنگ کو نعمان کہتے ہیں یعنی امام ابوحنیفہ کی عادات مبارکہ اچھی ہیں اور آپ کمال انتہا کو پہنچے (۴) نعمان کا لفظ نعمت سے ”فعلان“ کے وزن پر ہے پس امام ابوحنیفہ مخلوق پر اللہ کی نعمت عظمیٰ ثابت ہوئے۔“

(الخيرات الحسان ص ۳۶، ۳۷ فصل رابع)

کنیت سے متعلق غلط فہمی کا ازالہ

امام اعظم کی کنیت ”ابوحنیفہ“ ہے۔ لفظ حدیفۃ، حنیف کی مؤنث ہے آپ کی یہ کنیت کسی صاحبزادی کی وجہ سے نہ تھی کیوں کہ حماد کے علاوہ آپ کی اور کوئی بھی مذکور یا مؤنث اولاد تھی ہی نہیں۔ درحقیقت آپ کی یہ کنیت وصفی ہے جو امام اعظم نے بذات خود اختیار فرمائی جس کا مطلب ہے صاحب ملت حنیفہ یعنی ”مل باطلہ سے اعراض کر کے ملت حق کو اختیار کرنے

والا، آپ کی ذات ملت حنیفہ اور دین اسلام کے لیے وقف تھی۔ ملت حنیفہ کی اسی نسبت کے باعث آپ کی کنیت عوام و خواص میں ابو حنیفہ مشہور ہو گئی۔

امام اعظم کے حق میں حضور ﷺ کی بشارت

رسول اللہ ﷺ نے اہل فارس کے ایک خوش نصیب شخص کے بارے میں خوش خبری دی ہے اس حدیث مبارک کو امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا:

لَوْكَانَ الدِّيْنُ عِنْدَ الثُّرَیَا الْذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ أُوْقَالَ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَوَّلَهُ۔ (الصحابیح لمسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضل فارس، رقم الحدیث ۲۵۳۶)

اگر دین اونچ شریا پر بھی ہو تو اہل فارس یا ابناے فارس میں سے ایک شخص اسے وہاں سے بھی پالے گا۔ ائمہ حدیث نے اس حدیث میں بشارت نبوی کا اطلاق امام اعظم پر کیا ہے۔

ججۃ الاسلام امام جلال الدین سیوطی شافعی (متوفی ۹۱۱ھ) نے تبیین الحصیفة میں امام مالک اور امام شافعی کی فضیلت پر وارد ہونے والی احادیث تحریر کرنے کے بعد لکھا ہے:

أَقُولُ: وَقَدْ بَشَّرَ بِالإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمَ فِي الْحَلْيَةِ الْأَوْلَى إِنَّمَا مِنْ (جلال الدین سیوطی) كہتا ہوں: اس حدیث میں امام ابو حنیفہ کی بشارت دی گئی ہے جسے امام ابو نعیم اصفہانی (متوفی ۹۳۰ھ) نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے۔ یہ جملہ لقل کرنے کے بعد امام سیوطی نے اس حدیث مبارکہ کو تین صحابہ کرام ؓ سے پانچ مختلف کتب سے چھ عبارات مختلفہ سے تخریج کی ہے جو اس حدیث کی ثابتہ پر پختہ دلیل ہے۔ آخر میں امام سیوطی نے اپنا تبرہ ان الفاظ میں درج کیا ہے:

فَهَذَا أَصْلُ صَحِيحٍ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي الْبَشَارَةِ وَالْفَضْيَلَةِ نَظِيرُ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ فِي الْإِمَامَيْنِ وَيَسْتَغْفِرُ بِهِ عَنِ الْخَبَرِ الْمَوْضُوعِ۔

(تبییض الصحیفہ بمناقب ابی حنیفة۔ ۳۱، ۳۳، ۳۱، بحوالہ موسوعہ اعلام الفکر الاسلامی، ص ۳۰۸)

ترجمہ: امام اعظم کے حق میں بشارت اور فضیلت پر یہ حدیث اصل اور صحیح ہے جس پر اعتماد کیا جاتا ہے جس طرح کہ پہلی روایات میں امام مالک اور امام شافعی کی بشارت تھی اور امام اعظم کے حق میں یہ صحیح حدیث، موضوع روایات سے بے نیاز کروئی ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ نسلاً فارسی تھے آپ کے آباء و اجداد سر زمین فارس کے شہر "انبار" کے رہنے والے تھے۔ بعض موئین نے بابل بھی لکھا ہے۔ اس وقت سلطنت فارس کا پایہ تخت "کوفہ" تھا۔ امام اعظم کے پوتے امام اسماعیل بن حماد صراحتاً بیان کرتے ہیں:

أَنَا أَسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَادٍ بْنُ النَّعْمَانَ بْنُ ثَابِتٍ بْنُ النَّعْمَانَ بْنُ الْمَرْزَبَانِ
مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسِ الْأَهْرَارِ، وَاللَّهُ مَا وَقَعَ عَلَيْنَا رَقْ قَطْ.

(سیر اعلام النبلاء، ۶/۳۹۴، ۳۹۴، امام ذہبی)

میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان آزاد ابناے فارس میں سے ہوں۔ اللہ رب العزت کی قسم! ہم پر کبھی غلامی نہیں آئی۔

ہم امام اعظم کے پوتے اسماعیل بن حماد کی بیان کردہ روایت کا اطلاق صحیح مسلم کی مذکورہ حدیث مبارکہ پر کرتے ہیں اور امام حماد کی روایت اور امام مسلم کی روایت کردہ حدیث کا موازنہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم کے بارے میں یہ بشارت دی تھی۔ یہاں یہ بات بالخصوص قابل توجہ ہے کہ معروف ائمہ فقہہ میں سے صرف امام اعظم ابوحنیفہ وہ واحد شخص تھے جو اصلاً فارسی انسل تھے، اس لئے امام مسلم کی روایت کردہ حدیث مبارکہ کے حقیقی مصدق امام اعظم ابوحنیفہ ہی بنتے ہیں۔

امام اعظم ابوحنیفہ کے علاوہ فقہاء ملائش میں سے کوئی بھی اہل فارس میں سے نہ تھا۔ اس کی تفصیل کتب اسماء الرجال میں دیکھی جاسکتی ہے۔

امام مالک رضی اللہ عنہ کی ولادت مدینہ منورہ میں ۹۳ھ میں ہوئی اور ربیع الاول ۹۷ھ میں مدینہ منورہ میں وفات ہوئی۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کی ولادت بیت المقدس کے علاقہ عسقلان یا

غزہ میں ۱۵۰ھ میں ہوئی۔ آپ کا وصال ۵۲ سال کی عمر میں شب جمعہ بعد نماز مغرب ۲۰۳ھ میں قاہرہ مصر میں ہوا۔ امام احمد بن خبل رض کے والدین، اصلًا عربی لنسل ہیں آپ کی ولادت ۲۰ ربیع الاول ۱۶۲ھ میں ہوئی اور سنتہر سال کی عمر میں ۱۲ ربیع الاول بروز جمعہ ۲۳۱ھ میں بغداد میں آپ کا وصال ہوا۔

امام اعظم کے خاندان میں سب سے پہلے تابعیت کے منصب پر فائز ہونے والے آپ کے والد حضرت نہمان بن مرزبان تھے۔ اس وقت امام اعظم کے والد حضرت ثابت کم سن تھے کہ انہیں ان کے والد حضرت نہمان اپنے ساتھ لے کر امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضی رض کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعا کے لیے عرض کیا۔ حضرت علی نے آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے دعاے خیر و برکت فرمائی۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھارت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ امام اعظم ابوحنیفہ آسمان علم و فضل پرتابندہ ستارہ بن کرجگار ہے ہیں۔ امام اعظم کی قرآن و حدیث میں بلند درجہ فقاہت و ثقہت کا جمیع ائمہ حدیث و فقہ نے اعتراف کیا ہے، محدثین کی کثیر تعداد آپ کے فقه الحدیث کی مدائح ہے اور بہت سے محدثین حضرات اپنے شاگردوں اور پیر و کاروں کو آپ کے فقه الحدیث سے فیضاب ہونے کا درس دیتے رہے۔

امام مخیرہ بن مقتشم (متوفی ۱۳۶ھ) محدث کبیر امام عبد الملک ابن جرجع (متوفی ۱۵۰ھ) محدث اکبر امام ابن مهران اعمش (متوفی ۱۴۷ھ) محدث عظیم امام مسر بن کدام (متوفی ۱۵۳ھ) امام سعید بن ابی عروبة (متوفی ۱۵۶ھ) امام او زاعی (متوفی ۱۵۷ھ) امیر المؤمنین فی الحدیث امام سفیان ثوری (متوفی ۱۶۱ھ) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے پڑپوتے محدث و فقیہ امام قاسم بن عبد الرحمن (متوفی ۱۷۵ھ) امام دار المجرۃ حضرت مالک بن انس (متوفی ۱۷۹ھ) محدث کبیر امام وکیع بن جراح (متوفی ۱۹۶ھ) محدث عظیم امام سفیان بن عینیہ (متوفی ۱۹۸ھ) امام سیجی بن سعید قطان (متوفی ۱۹۱ھ) امام شافعی (متوفی ۲۰۲ھ) جیسے عظیم و جلیل بلند پایہ سینکڑوں فقہاء و محدثین سے سروی روایات اور اقوال و احوال سے ثابت ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ "امام اعظم فی الفقة" (فقہ میں سب سے بڑے

امام) کے رتبہ پر فائز ہیں جس میں آپ کا کوئی عانی نہیں۔

امام اعظم کے وہ تمام احوال جو کتب تواریخ و سیرت میں مندرج ہیں، ان کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ امام اعظم سے کم علم، کم فہم لوگ مسائل پوچھنے نہیں آتے تھے بلکہ اس دور کے بے شمار صدق، صالح، ثقہ، ثبت، اصدق، اوثق اور اثیت اکابر و محدثین آپ سے استفسار اور استفشاء کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ وہ سب محدثین آپ کے تفقہ فی الدین، فتحی بصیرت اور آپ کی فقاہت حدیث کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ ائمہ حدیث کی یہ تمام شہادتیں بغیر کسی مبالغہ کے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ امام اعظم کے پاس احادیث کا افرز خیرہ تھا۔

امام اعظم تابعی ہیں

یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ معروف ائمہ فقہہ و حدیث میں صرف امام اعظم ابوحنیفہ واحد امام ہیں جو تابعی ہیں آپ کے علاوہ باقی ائمہ کرام میں سے کوئی امام تابعی نہیں۔ امام اعظم وہ خوش نقیب انسان ہیں جنہیں صحابہ کرام کی زیارت نقیب ہوئی لہذا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت و شہادت کے مطابق امام اعظم طبقہ تابعین میں شامل ہو گئے۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

خَيْرُكُمْ قَرْنَىٰ تُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ۔ تم میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر میرے بعد ان کا زمانہ جوان سے ملیں یعنی تابعین کا زمانہ۔

(صحیح البخاری، کتاب فضائل الصحابة رقم الحدیث ۳۲۵۰)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

لَا تَمُشُ النَّارُ مُسْلِمًا رَأَةً أَنِّي أَوْ رَأَءِي إِذْ مَنْ رَأَ رَأَنِي.

(سنن الترمذی کتاب المناقب رقم الحدیث ۲۸۵۸)

اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھایا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔

ان دونوں حدیثوں سے صحابی اور تابعی کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔

خطیب بغدادی نے حضرت عبد اللہ بن مبارک سے منقول صحابی کی تعریف یہ لکھی ہے:

كُلُّ مَنْ صَحِّبَهُ سِنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ سَاعَةً أَوْ رَاهُ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ لَهُ مِنْ الصُّحْبَةِ عَلَى قَدْرِ مَا صَحَبَهُ۔ (الْكَفَايَةُ فِي عِلْمِ الرَّوَايَةِ ۵۱/۱)

ہر وہ شخص جس نے حضور ﷺ کی صحبت اختیار کی ہوا ایک سال یا ایک مہینہ یا ایک دن یا ایک ساعت یا اس نے فقط حالت ایمان میں آپ کو دیکھا ہو، وہ آپ کے صحابہ میں سے ہے اسے اسی قدر شرفِ صحابیت حاصل ہے جس قدر اس نے صحبت اختیار کی۔
ائمهٗ حدیث نے صحابی کی طرح تابعی کی بھی تعریف کی ہے۔

امام جلال الدین سیوطی (متوفی ۹۱۱ھ) فرماتے ہیں:

هُوَ مِنْ لَقِيَهُ وَإِنْ لَمْ يَصُحْبَهُ كَمَا قِيلَ فِي الصَّحَابَيْنِ۔ تابعی وہ ہے جس نے صحابی سے ملاقات کی ہوا اگرچہ اس کی صحبت اختیار نہ کی ہو جیسا کہ صحابی کے بارے میں کہا گیا ہے۔
یہی موقف امام حاکم، امام ابن صلاح، امام نووی، امام عراقی اور اکثر محدثین کا ہے۔
معتبر ائمہٗ حدیث نے تابعی کی جو تعریفات کی ہیں ان کی رو سے اگر امام اعظم ابوحنیفہ کا کسی صحابی رسول کو صرف دیکھنا ثابت ہو جائے تو آپ کا شمار تابعین میں ہو گا۔ اس سلسلہ میں محدثین، مورخین اور فقہاء اسلام کے اقوال صراحتاً اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ امام اعظم نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے اس کے علاوہ ائمہٗ حدیث و فقہاء اور تاریخ نے بھی اپنی تحریروں میں امام اعظم کو تابعی کہا اور لکھا ہے۔

امام ابویعیم اصفہانی مسند الامام ابی حنیفہ میں امام اعظم کا یہ قول ذکر کرتے ہیں:

رَءَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَائِمًا يُصَلِّي۔ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے اس حال میں دیکھا کہ وہ حالت قیام میں تھے۔

معروف مؤرخ امام ابو عبد اللہ محمد بن سعد (متوفی ۴۲۰ھ) جامع بیان العلم وفضله ۱/۱۰۰ امام ابن عبد البر، امام ابو الفرج محمد بن اسحاق ابن ندیم (متوفی ۴۳۸ھ) الفہرست ۲۵۵، امام دارقطنی (متوفی ۴۳۸ھ) العلل المتناهیة ۱/۱۳۶ اہل لام ابی جوزی حافظ خطیب بغدادی (متوفی ۴۳۶ھ) تاریخ بغداد ۱۳۲۲/۱۳ تا امام ابو سعد بن عبد الکریم سمعانی (متوفی ۴۵۵ھ) الانساب ۳/۳۷ امام عبد الرحمن ابی جوزی (متوفی ۴۹۵ھ) المنشزم

فی تاریخ الملوك والامم ۸/۲۹۰۔ امام شمس الدین ابن خلکان (متوفی ۲۸۱ھ) وفیات الاعیان ۵/۳۰۶۔ امام شمس الدین محمد ذہبی (متوفی ۲۷۸ھ) سیر اعلام النبلاء ۶/۲۹۱۔ علامہ صلاح الدین صفری (۲۷۶ھ) الواقی بالوفیات ۲/۸۹۔ امام ابن سعد یافی (متوفی ۲۷۸ھ) مرأة الجنان وعبرة اليقظان ۱/۳۱۰۔ امام ابن کثیر مشقی (متوفی ۲۷۷ھ) البداية والنهاية ۱۰/۱۔ امام زین الدین عراقی (متوفی ۸۰۶ھ) التقيید والایضاح ۳۳۲۔ حافظ الحدیث امام ابن حجر عسقلانی (متوفی ۸۵۲ھ) تهذیب التهذیب ۱۱/۳۰۔ امام اجلال الدین سیوطی (متوفی ۹۱۱ھ) طبقات الحفاظ ۱/۸۰۔ امام شہاب الدین قسطلانی (متوفی ۹۲۳ھ) ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری۔ قاضی حسین دیار بکری مالکی (متوفی ۹۶۶ھ) تاریخ تخمسیں فی احوال انس نفیس ۲/۳۲۶۔ امام ابن حجر کی بیتی شافعی (متوفی ۹۷۳ھ) الخیرات الحسان فی مناقب الامام ابی حنیفة النعمان۔ امام ابن عمار حنبلی (متوفی ۱۰۸۹ھ) شذرات الذهب فی اخبار من ذهب ۱/۲۲۷۔

کی تصریحات کے مطابق آپ تابعی ہیں اور صحابہ کرام کی زیارت سے مشرف ہیں۔ ایسا جلیل القدر رتبہ آپ کے معاصرین میں اور بعد ازاں کسی امام کو نصیب نہیں ہوا۔ اتنی پختہ تصریحات کے بعد بھی امام اعظم کی تابیعت پر شک کرنے والوں کے طرز عمل کو بقول امام بدرا الدین عینی تعصب و عناد، بعض وحدت اور جہالت وہت دھرمی کے سوا کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

امام اعظم کے زمانہ میں بائیس صحابہ کرام باحیات تھے

امام اعظم کے بارے میں اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے محلہ کرام رضی اللہ عنہم کو باحیات پایا یعنی عدد پر اختلاف ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ نے چار سے لے کر بائیس صحابہ کرام تک کو اپنی زندگی میں پایا۔ جن محدثین کے مطابق امام اعظم ابوحنیفہ کی زندگی میں بائیس محلہ کرام باحیات تھے، ان محدثین کے نام مع کتاب و صفحہ نمبر درج ذیل ہے:

امام حسین بن علی صمیری (متوفی ۲۳۶ھ) أخبار ابی حنیفة واصحابہ، ص(۲)

امام علی ابن ماؤلا (متوفی ۲۷۵ھ) الإكمال فی رفع الارتياب عن المؤتلف

وال مختلف فی الأسماء ۲/۳۲۶) قاضی ابن خلکان (متوفی ۳۸۱ھ) و فیات الأعیان و أنباء الزمان۔ ۵/۳۰۶) امام شمس الدین ذہبی (متوفی ۷۳۸ھ) سیر أعلام النبلاء۔ ۶/۳۹۱) امام ابو محمد عبد اللہ بن اسعد یافعی (متوفی ۷۶۸ھ) مرأة الجنان و عبرة اليقظان۔ ۱/۳۱۰) امام ابن حجر عسقلانی (متوفی ۸۵۲ھ) اور امام محمد ابن بناز کروری (متوفی ۸۲۷ھ) اس کے علاوہ محدث سندہ امام محمد بن ہاشم ٹھٹھوی (متوفی ۷۲۱ھ) نے اپنی کتاب التحاف الأکابر بمروریات الشیخ عبد القادر میں اکیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسمائے گرامی ذکر کیے ہیں جن کا زمانہ امام اعظم نے پایا۔ اسی طرح شیخ محمد حسن سنبلی نے بھی اپنی کتاب تنسيق النظام فی مسند الامام الاعظم للحصکفی میں ایسے بائیس صحابہ کرام کے اسمائے گرامی ذکر کیے ہیں جن کا زمانہ امام اعظم نے پایا۔

امام اعظم کے زمانہ میں باحیات صحابہ کرام کے سنین و صال

- معتبر کتب اسمائے رجال کے مطابق امام اعظم کے زمانہ میں حیات صحابہ کرام کے سنین و صال درج ذیل ہیں:
- (۱) حضرت ابو طفیل عامر بن واٹلہ رضی اللہ عنہ کی وفات ۷۱۰ھ یا ۱۱۰ھ میں ہوئی۔
(الأصابة فی تمییز الصحابة ۷/۲۳۰، از امام ابن حجر عسقلانی)
 - (۲) حضرت ہرماس بن زیاد رضی اللہ عنہ کی وفات ۱۰۰ھ میں ہوئی۔
(تقریب التهذیب ۱/۵۷۱-۱/۵۷۵۔ از امام ابن حجر عسقلانی)
 - (۳) حضرت عبد اللہ بن حارث بن جزء الزبیدی رضی اللہ عنہ کی وفات ثقہ قول کے مطابق ۹۹ھ میں ہوئی۔
(مناقب الامام الاعظم أبي حنیفة ۱/۱۲۔ از امام ابن بناز کروری)
 - (۴) حضرت عکراش بن ذؤیب رضی اللہ عنہ کی وفات پہلی صدی ہجری کے آخر میں ہوئی۔
(تہذیب التهذیب ۷/۲۲۹۔ از امام ابن حجر عسقلانی)
 - (۵) حضرت محمود بن ربع رضی اللہ عنہ کی وفات ۹۹ھ میں ہوئی۔
(تہذیب الکمال ۲/۳۰۱-۲/۳۰۲۔ از امام ابو الحجاج یوسف مزی)

- (۶) حضرت یوسف بن عبد اللہ بن سلام رض کی وفات عمر بن عبد العزیز کے دورِ خلافت میں ہوئی، ان کا عہد خلافت ۹۹ھ سے شروع ہوا۔
 (تہذیب الکمال ۳۲/۳۳۶۔ امام ابوالحجاج یوسف مزی)
- (۷) حضرت عبد اللہ بن بسر رض کی وفات ۸۸ھ یا ۹۶ھ میں ہوئی۔
 (الاصابة فی تعيییز الصحابة ۲/۲۳، امام ابن حجر عسقلانی)
- (۸) حضرت محمود بن لبید رض کی وفات ۹۶ھ میں ہوئی۔
 (تہذیب التہذیب ۱/۵۲۲۔ امام ابن حجر عسقلانی)
- (۹) حضرت انس بن مالک رض کی وفات ۹۱ھ یا ۹۳ھ یا ۹۵ھ میں ہوئی۔
 (تہذیب التہذیب ۱/۳۳۰۔ امام ابن حجر عسقلانی)
- (۱۰) حضرت مالک بن اوس رض کی وفات ۹۲ھ میں ہوئی۔
 (سیر أعلام النبلاء ۲/۲۷، امام ثمس الدین ذہبی)
- (۱۱) حضرت سائب بن زید بن سعید کندی رض کی وفات ۹۱ھ میں ہوئی۔
 (تہذیب التہذیب ۳/۳۹۱۔ امام ابن حجر عسقلانی)
- (۱۲) حضرت سہل بن سعد الساعدی رض کی وفات ۸۸ھ یا ۹۱ھ میں ہوئی۔
 (التاریخ الكبير ۳/۲۷۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری)
- (۱۳) حضرت عبد اللہ بن شعبہ رض کی وفات ۸۹ھ میں ہوئی۔
 (تقریب التہذیب ۵/۱۲۵۔ امام ابن حجر عسقلانی)
- (۱۴) حضرت عبد اللہ بن ابی اوی رض کی وفات ۸۷ھ یا ۸۸ھ میں ہوئی۔
 (التاریخ الكبير ۵/۲۲۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری)
- (۱۵) حضرت مقدام بن معدیکرب رض کی وفات ۸۷ھ میں ہوئی۔
 (تقریب التہذیب ۱/۵۲۵۔ امام ابن حجر عسقلانی)
- (۱۶) حضرت عقبہ بن عبد اللہ رض کی وفات ۸۷ھ میں ہوئی۔
 (الاستیعاب فی معرفة الاصحاب ۳/۳۱۰۔ امام ابن عبد البر مالکی)

- (۱۷) حضرت ابو امام الباهی رض کی وفات ۸۶ھ میں ہوئی۔
 (سیر أعلام النبلاء ۳۶۳/۳۔ از امام شمس الدین ذہبی)
- (۱۸) حضرت بسر بن ارطاة رض کی وفات ۸۶ھ میں ہوئی۔
 (تهذیب التهذیب ۳۸۱/۱۔ از امام ابن حجر عسقلانی)
- (۱۹) حضرت عمرو بن حریث رض کی وفات ۸۵ھ میں ہوئی۔
 (مشاهیر علماء الامصار ۲۶۔ از امام ابن حبان)
- (۲۰) حضرت وائلہ بن اسقع رض کی وفات ۸۳ھ یا ۸۵ھ میں ہوئی۔
 (تهذیب التهذیب ۸۹/۱۱۔ از امام ابن حجر عسقلانی)
- (۲۱) حضرت عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب رض کی وفات ۸۲ھ یا ۹۵ھ میں ہوئی۔
 (تهذیب التهذیب ۱۲۹/۵۔ از امام ابن حجر عسقلانی)
- (۲۲) حضرت ظاہر بن شہاب رض کی وفات ۸۳ھ میں ہوئی۔
 (مشاهیر علماء الامصار ۲۸۔ از امام ابن حبان)

پانچ سال کی عمر میں سماع حدیث صحیح ہے

اس میں کوئی شک نہیں کہ امام اعظم کا بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لقاء اور ان سے سماع کرنا بہت چھوٹی عمر میں ہوا۔ اس لیے کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ پانچ یا چھ سال کی عمر میں آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کیسے سماع حدیث کر لیا؟

اس سلسلے میں گزارش ہے کہ محمد بن شین کرام نے پانچ سال تک کی عمر میں سماع حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں کتاب العلم باب متى یصح سماع الصغیر (چھوٹے بچے کا ساعت حدیث کرنا کس عمر میں درست ہوتا ہے) کے تحت صحابی رسول حضرت محمود بن ربع رض سے حدیث مبارکہ بیان کی ہے جو حدیث امام محمود بن ربع نے پانچ سال کی عمر میں حضور ﷺ سے ساعت کی ہے۔

الہذا پانچ سال کی عمر میں سماع حدیث صحیح ہے۔

امام اعظم پر لکھنے والے تمام محدثین اور مؤرخین کی کتب کے گھرے مطالعے کے بعد یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ امام اعظم نے نہ صرف صحابہ کرام کی زیارت کی بلکہ آپ نے براہ راست صحابہ کرام سے سامع حدیث بھی کیا۔

امام اعظم کے شاگرد اور امام احمد بن حنبل، امام بخاری کے شیخ، امام ابو نعیم فضل بن دیکین (متوفی ۲۱۸ھ) امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد کے شیخ امام یحییٰ بن معین (متوفی ۲۳۳ھ) امام ابو حامد حضری بصری (متوفی ۳۲۱ھ) امام علی بن کاس خنی (متوفی ۳۲۲ھ) امام محمد بن عمر بن جعابی (متوفی ۳۵۵ھ) امام ابو نعیم اصیہانی (متوفی ۳۴۰ھ) حسین بن علی صمیری (متوفی ۳۴۶ھ) امام احمد بن حسین بیہقی (متوفی ۳۵۸ھ) امام ابن عبد البر انڈی مالکی (متوفی ۳۶۳ھ) امام ابو معشر عبد الکریم شافعی (متوفی ۳۷۸ھ) امام موفق بن احمد مکی (متوفی ۴۵۶ھ) امام سبط ابن جوزی (متوفی ۶۵۳ھ) امام ابو المؤید محمد بن خوارزمی (متوفی ۶۶۵ھ) حافظ ابن کثیر دمشقی (متوفی ۷۷۳ھ) امام ابن حجر عسکری شافعی بیہقی (متوفی ۷۹۳ھ) اور امام ابن عماد حنبلی (متوفی ۱۰۸۹ھ) کی تحقیق کے مطابق امام اعظم نے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے اور احادیث روایت کی ہیں۔

ان دو صفاتِ عظیمه کی بدولت آپ کاشمار جلیل القدر محدثین اور تابعین میں ہوتا ہے۔

امام اعظم رضی اللہ عنہ کے اخذ علم الحدیث کے مرکز

امام اعظم جب اس عالم رنگ و بویں فروکش ہوئے تو اس وقت کا سارا عالم اسلام بشمول عراق و مصر علم الحدیث کی ضیابر خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ طالبان علم الحدیث مشرق و مغرب سے ائمہ اسلام کی خدمت میں آتے اور سالہا سال تک حصول فیض فرماتے۔ اس وقت درج ذیل مقامات خصوصی اہمیت کے حامل تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ نے بطور خاص کوفہ، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور بصرہ سے علم الحدیث حاصل کیا۔

اس دور میں ان مقامات پر ہزار ہامحدثین صحابہ اور تابعین موجود تھے جو اطراف و اکناف سے آنے والے سینکڑوں طلاب کو علم الحدیث کے چشمہ فیض سے سیراب کر رہے تھے۔

ان میں سے کوفہ امام اعظم کا مولد و مسکن بھی تھا جو ان چاروں مراکز حدیث میں سے بوجوہ ممتاز و منفرد حیثیت کا حامل تھا۔ امام اعظم اسی شہر میں پیدا ہوئے اور اپنی زندگی کے آخری چند سالوں کے سوا (جب وہ بغداد منتقل ہو گئے تھے) عمر بھر یہاں پر ہی قیام فرمائے۔ اس طرح آپ کا بچپن، نوجوانی، جوانی اور ادھیر عمری کے تمام ماہ و سال مدینۃ علم الحدیث کوفہ میں ہی گزرے۔ امام اعظم نے تحصیل علم الحدیث کے لیے کوفہ کے علاوہ جن شہروں کا بطور خاص سفر کیا، ان میں حرمین شریفین اور بصرہ شامل ہیں۔ امام اعظم نے علم الحدیث کے ان عظیم مراکز کا کئی بار سفر کیا اور کئی سال وہاں پر موجود محمد شین عظام سے علم الحدیث کی تحصیل کی۔

کوفہ کی علمی، تاریخی اور مذہبی حیثیت

علم الحدیث اور اس سے متعلقہ علوم کی آبیاری میں کوفہ کی بلند پایہ علمی و فنی خدمات کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ تاریخی اعتبار سے ۷ء ہجری میں سیدنا عمر فاروق اعظم رض کے دور میں صحابہ کرام کی کوفہ میں آمد کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس شہر کی بنیاد رکھی اور اس کوفوچی چھاؤنی اور سرائے کی حیثیت سے آباد کیا لیکن جلد ہی یہ شہر صحابہ کرام کی کثیر تعداد میں آمد اور آباد کاری کے سبب علم و فن اور تقویٰ و طہارت کی آماج گاہ بن گیا اور اسلام کی عظیم تہذیب و ثقافت کا علمبردار بن کر آئندہ کئی صد یوں تک علم و فکر کا عظیم مرکز بنا رہا۔

خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رض، حضرت علی مرتضی رض، حضرت سلمان فارسی رض، حضرت حذیفہ رض، مرجع علم حضرت عبد اللہ بن مسعود رض کے کوفہ کے تعلق سے اقوال پڑھنے کے بعد کوفہ کی قدر و منزلت اظہر من الشس ہے۔

اسی لیے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی مرتضی نے سیاسی طور پر استحکام خلافت کے لیے اسلامی دارالحکومت کو بوجوہ مدینہ سے کوفہ منتقل کرنا ضروری سمجھا۔ حضرت علی رض کے کوفہ کو دارالخلافہ بنانے کے بعد یہاں پر علمی حوالے سے اہم ترین پیش رفت اس وقت ہوئی جب آپ کے ساتھ ساتھ سینکڑوں صحابہ کرام رض بھی منتقل ہو گئے۔

دارالخلافہ بننے کے بعد ایک طرف تو قضاۓ و افقاء کی بنیادی ذمہ دار یوں کا مرکز ہونے کی

وجہ سے کوفہ والی کوفہ کی علمی و فقہی حیثیت مستند تر ہوتی چلی گئی جب کہ دوسری طرف علم الحدیث کے وارث ہزاروں صحابہ کرام کی کوفہ میں آمد کی وجہ سے اس شہر میں علم الحدیث کے فروغ اور عروج کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔

کوفہ میں موجود صحابہ کرام کی تعداد کے متعلق متعدد مورخین و محدثین نے اقوال تابعین و تبع تابعین کی روشنی میں اپنی اپنی تحقیقات پیش کی ہیں ان طویل ترین تحقیقات کا خلاصہ سپرد قرطاس ہے۔

(۱) تابعی کبیر حضرت امام ابراہیم بن یزید الخنی (متوفی ۹۶ھ) کے مطابق بیعت رضوان کرنے والے چودہ سو صحابہ کرام میں سے تین سو اور غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں میں سے ستر صحابہ کرام کوفہ میں آ کر آباد ہوئے۔ (طبقات ابن سعد ۹/۶۔ از امام ابن سعد)

(۲) تابعی کبیر حضرت امام قادہ بن دعامة بصری (متوفی ۹۶ھ) کی تحقیق کے مطابق ایک ہزار پچاس صحابہ کرام کوفہ میں آ کر اقامۃ گزیں ہوئے۔

(فتح المغیث شرح الفیة الحدیث للعرائی ۳)

(۳) نقاد محدث امام احمد بن عبد اللہ بن عجمان (متوفی ۲۶۱ھ) کی تحقیق کے مطابق کوفہ میں ایک ہزار پانچ سو صحابہ کرام نے اقامۃ اختیار کی۔

(فتح القدير شرح الہدایۃ ۱/۱۰۲، از امام ابن الہمام)

(۴) مشہور مورخ اسلام حضرت ابن سعد (متوفی ۲۳۰ھ) کے مطابق ایک سو پینتیس صحابہ کرام کوفہ میں مقیم تھے۔ امام ابن سعد نے ان صحابہ کرام کے نام اور مختصر تعارف بھی لکھا۔

(۵) مورخ اسلام خلیفہ بن خیاط (متوفی ۲۳۰ھ) نے اپنی کتاب الطبقات میں کوفہ میں اقامۃ اختیار کرنے والے ایک سو چھپن صحابہ کرام کے نام لقل کیے ہیں۔

معلوم ہوا کہ ابن سعد اور خلیفہ خیاط کی تحقیق کے مطابق تعداد کو ملا کر دوسو پندرہ صحابہ کرام نے کوفہ میں اپنا علمی فیض منتقل کیا۔

(۶) صاحب مسند رک محدث کبیر امام حاکم نے اپنی تحقیق کے مطابق دیگر شہروں میں آباد ہونے والے صحابہ کرام کے اسماء گرامی مرتب کیے ہیں جس میں انہوں نے کوفہ میں

آباد ہو جانے والے سینتالیس صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے۔ کوفہ میں موجود سینکڑوں اصحاب رسول کی بدولت یہ شہر نہ صرف یہ کہ اسلامی علوم و فنون کی نزدیکی اور اولین درس گاہ کی حیثیت اختیار کر چکا تھا بلکہ علم الحدیث اور فقہ الحدیث کا مرکز بھی بن گیا تھا۔ ذوات صحابہ کی بدولت کوفہ میں علم الحدیث کے بے شمار چشمے پھوٹ رہے تھے چنانچہ یہ ایک فطری امر تھا کہ دنیاے اسلام کے کونہ کونہ سے طالبان علم الحدیث اس کی طرف کھنپے چلے آئیں۔

صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص تحصیل علم کے لیے کوفہ سے باہر سفر کرتا تو دوسرے علاقوں میں موجود صحابہ کرام اسے ٹوکتے اور اسے کوفہ کے علمی مقام سے آگاہ کرتے۔

کوفہ کے حوالے سے یہ بات سوچنے والی ہے کہ ایسا مقام جہاں ہزار سے زائد صحابہ کرام کے علم الحدیث کی نہریں پھوٹی ہوں، ہزار ہا اکابر تابعین اسی علم الحدیث کو پھیلانے میں مصروف اور کوشش ہوں اور ہزار ہا تشنجان علم، حدیث کے حصول کے لیے پوری دنیا سے کوفہ کا رخ کریں وہ شہر علم، ابوحنیفہ جیسے گوہر کو ”امام اعظم“ بتاتا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہاں تعجب اس میں ہے کہ اس تاریخی علمی و روحانی مرکز کے روح روایت امام وقت کو حدیث سے نا بلد قرار دیا جائے۔

امام عفان نے کوفہ شہر میں چار ماہ رہ کر پچاس ہزار احادیث لکھ لیں۔ امام عبد اللہ نے وہاں پہنچ کر ایک ماہ میں تیس ہزار احادیث نقل کر لیں اور امام بخاری احادیث حاصل کرنے کے لیے اسی شہر میں بار بار جائیں تو لازمی ہے کہ امام ابوحنیفہ جیسے قابل ترین شخص نے صرف کوفہ میں ہی ہزار ہا احادیث کی سماعت کی ہو گی کیوں کہ آپ کوفہ میں روایت ہونے والی ہر حدیث سے واقف تھے۔

حافظ حدیث امام حسن بن صالح (متوفی ۱۶۹ھ) بیان کرتے ہیں:

كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ عَارِفًا بِحَدِيثِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَفِقْهِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَكَانَ حَافِظًا لِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأَخْيُرُ الَّذِي قَبِضَ عَلَيْهِ مِمَّا وَصَلَ إِلَى أَهْلِ بَلَدِهِ۔ (أخبار أبي حنيفة واصحابه، ص ۱۱)

امام ابوحنیفہ تمام اہل کوفہ کے علم الحدیث اور فقہ الحدیث کے عالم تھے اور اپنے شہر کے

رہنے والے مدینہ تک حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری افعال سے متعلق پہچنے والی تمام احادیث کے حافظ تھے۔

خود امام اعظم فرمایا کرتے تھے:

أَنَا عَالِمٌ بِعِلْمٍ أَهْلِ الْكُوفَةِ. میں اہل کوفہ کے علم کا عالم ہوں۔

امام حسن بن صالح اور امام اعظم کے قول سے روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ کوفہ میں موجود جمیع محدثین اور فقہاء کے علم الحدیث اور فقہ الحدیث پر امام اعظم ابوحنیفہ کی گہری نگاہ تھی اور بالخصوص آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری عمل مبارک کے حافظ تھے۔ اس قول سے آپ کی عظیم محدثانہ شان اور فقیہانہ بصیرت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

امام ابن عبد البر مالکی (متوفی ۵۲۶ھ) فرماتے ہیں:

لَائَ شَانَ الْمَسَائِلِ بِالْكُوفَةِ مَدَارُهُ عَلَى أُبُّي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَالْتَّوْرِي (جامع بیان العلم وفضلہ ص ۳۰۵) کوفہ کے علم کی اس شان کا تاج امام ابوحنیفہ ان کے شاگردوں اور امام سفیان ثوری کے سر پر ہے۔

امام اعظم نے بھر سولہ سال ۹۶ھ میں پہلا حج کیا۔ اس سفر حج میں آپ کے والد محترم حضرت ثابت ساتھ تھے اور حرمن شریفین کی طرف پہلا سفر تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے پچپن حج کیے یوں آپ نے ۹۶ھ سے لے کر ۱۵۰ھ تک ہر سال حج کے لیے سفر حجاز کیا۔ اس روایت کو امام تیکی بن ادم نے مناقب الامام الاعظم ابی حنیفة (۲۵۳/۱) میں ذکر کیا ہے۔

حرمین شریفین میں امام اعظم کا قیام

جبیسا کہ سطور بالا سے واضح ہوا کہ امام اعظم نے اپنی ستر سال کی عمر شریف میں پچپن حج کیے اگر ایک سفر حج کی مدت مع قیام حرمین دو ماہ بھی فرض کر لیا جائے تو سفر حج اور قیام حرمین کا یہ عرصہ ایک سو دس ماہ یعنی تقریباً نو سال بتاتا ہے۔ کوئی شخص اس عرصہ قیام کو کم کرنا چاہے تو کر لے پھر بھی اگر اس عرصہ قیام کو ایک مہینہ کر لیں تو بھی اس کا نصف ساڑھے چار سال بتاتا

ہے۔ امام اعظم کے حر میں شریفین میں قیام کی کم از کم مدت اس سے ہرگز کم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ امام صاحب حر میں شریفین میں جائیں اور وہاں محدثین کی صحبتوں سے فیضیاب نہ ہوتے ہوں جب کہ وہاں حج بھی کرنا ہو تو امام صاحب کی وہاں مدت قیام کم از کم ساڑھے چار سال بن جاتی ہے۔

واضح رہے کہ یہ قیام حر میں اس قیام کے علاوہ ہے جس کا ذکر سطور ذیل میں ہے۔

امام اعظم حج کے ان سفروں کے علاوہ بھی مزید چھ سال مستقل طور پر حر میں شریفین میں قیام پذیر رہے۔ ۱۳۰ھ میں بنوامیہ کی ظالمانہ روشن سے پریشان ہو کر نقل مکانی کر کے حر میں شریفین چلے گئے تھے۔ اس عرصہ کے دوران آپ نے مکہ اور مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ آپ ۱۳۶ھ سے لے کر ۱۳۷ھ تک چھ سال حر میں شریفین میں مقیم رہے۔ ان چھ سالوں کے دوران بنوامیہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد آپ خلافت عباسیہ کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر عبداللہ بن محمد منصور عباسی کے دور میں واپس تشریف لائے۔ (مناقب الامام الاعظم ۲/۲۳، از امام موفق بن احمد کی) مذکورہ بالادنوں عرصہ قیام ملانے سے مجموعی طور پر امام اعظم کا مکہ اور مدینہ میں قیام کا کل عرصہ ساڑھے دس سال بنتا ہے تقریباً گیارہ برس کے اس طویل قیام سے حر میں شریفین میں علم الحدیث کا کون سا ذخیرہ باقی رکھا گیا ہو گا جو امام اعظم نے اپنی جھوٹی میں جمع نہیں کیا۔

ای طرح صحابہ کرام اور تابعین عظام کا علمی فیض سمیٹنے کے لیے امام اعظم ابوحنیفہ نے میں مرتبہ بصرہ کا سفر کیا، کوفہ کی طرح جو علم الحدیث بصرہ میں تھا آپ نے اسے میں مرتبہ سے زائد سفر کر کے حاصل کیا۔

خلاصہ بحث یہی ہے کہ اپنا مولد و مسکن ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے امام اعظم کو فہرست موجود علم الحدیث کے تمام چشمتوں سے سیراب ہوئے، اس کے بعد جو علم الحدیث سرزین حجاز یعنی مکہ و مدینہ میں تھا اُس کو بھی اپنے ذخیرہ علم کا حصہ بنایا، ساتھ ہی آپ نے خصوصاً بصرہ میں موجود علم الحدیث کو بھی اپنے دامن صدر نگ میں سمیٹا۔ الغرض امام اعظم نے ان چاروں مراکز علم الحدیث کے علاوہ پوری اسلامی دنیا کے انہمہ حدیث سے علم الحدیث کی تحصیل کی۔

نتیجتاً اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی جہد مسلسل اور محنت شاقہ کی بدولت ”امام اعظم“ کے

نام سے ملقب ہو کر علمی افق پر مثل ماتحتاب چمکے اور صرف فقه الحدیث میں ہی نہیں بلکہ علم الحدیث میں بھی امام الائمه فی الحدیث کے اعلیٰ رتبہ پر متکن ہوئے۔

امام اعظم رضی اللہ عنہ کا بر صحابہ کرام کے علم الحدیث کے وارث

امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جن طرق کے ذریعہ صحابہ کرام سے علم حدیث حاصل کیا اسے خطیب بغدادی اور دیگر ائمہ نے آپ ہی کی زبانی روایت کی ہے۔

خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کہ امام اعظم نے فرمایا:

دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ لِيْ يَا أَبَا حَنِيفَةَ! عَمَّنْ أَخْذَتِ الْعِلْمَ قَالَ: قُلْتُ: عَنْ حَمَادِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ۔ قَالَ: فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٌ: بَخْ بَخْ إِسْتَوْثِقْتَ مَا شِئْتَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ۔ (تاریخ بغداد ۱۳۲/۳۲۲، از امام خطیب بغدادی۔

تہذیب الاسماء واللغات ۲/۲۱۸۔ از امام نووی)

میں امیر المؤمنین ابو جعفر منصور کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، ابو حنیفہ! آپ نے علم الحدیث کہاں سے حاصل کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے بواسطہ امام حماد بن سلیمان، امام ابراہیم بن یزید نجاشی کے طریق سے حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے علم الحدیث حاصل کیا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہا: بہت خوب ابو حنیفہ آپ نے ان طیب، پاکیزہ اور مبارک ہستیوں صلوuat اللہ علیہم سے حسب خواہش علمی ثقاہت اور چیختگی و مضبوطی حاصل کر لی ہے۔

اس روایت میں امام اعظم نے اکابر تابعین اور جلیل القدر صحابہ کرام تک علم الحدیث میں اپنی متصل سند بیان فرمائی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو براہ راست بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت سے مستفید ہونے اور ان سے روایت حدیث کرنے کی بناء پر تابعیت کا شرف حاصل ہے جس کا ذکر مسابق میں گذر اعلاوہ ازیں آپ نے اپنے اکابر شیوخ تابعین کے توسط سے بھی خلافائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام سے اخذ حدیث اور اکتساب علم کیا ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ علم الحدیث میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق صلوات اللہ علیہ و آله و سلم کے پوتے حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر اور امام میمون بن مهران کے شاگرد ہیں۔ انہی کی طرف سے آپ علم الحدیث میں حضرت ابو بکر صدیق صلوات اللہ علیہ و آله و سلم کے وارث بننے ہیں۔

امام اعظم نے حضرت ابو بکر سے دو واسطوں سے احادیث روایت کی ہیں۔

اسی طرح امام اعظم ابوحنیفہ علم الحدیث میں سیدنا عمر فاروق کے بھی وارث ہیں، امام اعظم کی حضرت عمر فاروق اعظم سے روایت حدیث میں دو واسطے ہیں اور دو سند ہیں۔ پہلی سند میں امام اعظم کے شیخ سالم بن عبد اللہ بن عمر اور ان کے شیخ عبد اللہ بن عمر ہیں اور دوسری سند میں امام اعظم کے شیخ زید بن اسلم اور ان کے شیخ اسلم مولی عمر بن الخطاب ہیں۔

امام اعظم ابوحنیفہ علم الحدیث میں سیدنا عثمان غنی کے بھی وارث ہیں۔ چنانچہ خلیفہ سوم تک امام اعظم کی سند میں صرف ایک واسطہ ہے، امام اعظم ابوحنیفہ کے شیخ موسیٰ بن طلحہ تکی مدفنی ہیں اور ان کے شیخ خلیفہ مالک حضرت عثمان غنی ہیں۔

جن جلیل القدر صحابہ کرام کے ذریعہ علم الحدیث کوفہ میں بکثرت منتقل ہوا پھر جو حضرات کوفہ میں علم الحدیث کے باñی کھلانے امام اعظم کی اسانید ان حضرات تک بھی پہنچتی ہیں۔ ان عالی مرتبہ صحابہ کرام میں حضرت علی کا شمار صاف اول میں ہوتا ہے۔ امام اعظم تابعین کے واسطے سے حضرت علی سے بھی روایت کرتے ہیں۔ اس سند میں امام اعظم کے شیخ ابراہیم بن یزید تھی ہیں اور ان کے شیخ قاضی شریح بن حارث کوئی ہیں۔ دوسری سند میں امام اعظم کے شیخ ابواسحاق سمعی ہیں اور ان کے شیخ مسروق بن اجدع ہیں اور تیسرا سند میں امام اعظم کے شیخ سلمہ بن کہیل ہیں اور ان کے شیخ علقمہ بن قیس تھی ہیں۔

اس طرح امام اعظم حضرت علی کے علم الحدیث کے بھی وارث ہیں۔

امام ابوحنیفہ جس طرح خلفائے راشدین کے علم الحدیث کے وارث ہیں اسی طرح اپنے کئی اکابر اساتذہ کے طرق سے حضور نبی اکرم صلوات اللہ علیہ و آله و سلم کی ازواج مطہرات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ صلوات اللہ علیہ و آله و سلم تک بھی صرف ایک واسطہ سے آپ کی سند حدیث موجود ہے۔ امہات المؤمنین تک آپ کی آٹھ سند ہیں ہیں۔

امام اعظم کو یہ خوش نصیبی بھی حاصل ہے کہ آپ اپنے اکابر شیوخ تابعین کے کئی طرق اور واسطوں سے خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات کے علاوہ عبادۃ ثلاثہ کے علم الحدیث کے بھی وارث ہیں۔ عبادۃ ثلاثہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رض بھی کوفہ میں علم الحدیث کے بانی کہلائے۔ امام اعظم کی حضرت عبداللہ بن مسعود تک روایت حدیث کی سات سندیں ہیں۔ امام اعظم اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان چھ سندوں میں دو اور ساتوں سند میں تین واسطے ہیں۔ اسی طرح امام اعظم اپنے شیوخ کے ذریعہ سات طرق سے حضرت عبداللہ بن عباس رض کے علم الحدیث کے وارث ہیں اور ساتوں طرق میں امام اعظم اور حضرت عبداللہ بن عباس کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے۔

اسی طرح امام اعظم اپنے شیوخ کے ذریعہ عبادۃ ثلاثہ میں سے تیرے فرد حضرت عبداللہ بن عمر کے علم الحدیث کے بھی چھ نمایاں طرق سے وارث تھے ہیں اور چھ طرق میں امام اعظم ابوحنیفہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کے درمیان ایک شیخ کا واسطہ ہے۔ ان طرق کی علمی تحقیق سے معلوم ہوا کہ امام اعظم اپنے اجل اور اوثق شیوخ کے ذریعہ اکابر صحابة کرام کے علم الحدیث کے وارث ہیں۔

نحوث: مذکورہ بالا امام اعظم کے طرق اور اسانید حدیث کی تفصیل کے طالب معجز
و معتمد، مشہور و معروف کتب اسلامی رجال کا مطالعہ کریں۔ مثلاً

(۱) التاریخ الکبیر (۲) التاریخ الصغیر۔ امام محمد بن اسما علی بخاری (۴۲۵ھ)

(۳) الکنی والاسماء۔ (۴) مسلم (۵) الجرح والتعديل۔

(۶) کتاب الثقات (۷) تاریخ بغداد (۸) الاستیعاب فی معرفة الاصحاب امام ابن عبد البر مالکی

(۹) تهذیب الاسماء واللغات (۱۰) امام ابوالحجاج مزی (۱۱) تهذیب الکمال

- (۱۰) تذکرة الحفاظ امام شمس الدین ذہبی (متوفی ۷۳۸ھ)
- (۱۱) الا صابة فی تمییز الصحابة امام ابن حجر عسقلانی (متوفی ۸۵۲ھ)
- (۱۲) طبقات الحفاظ امام جلال الدین سیوطی (متوفی ۹۱۱ھ)

امام اعظم رضی اللہ عنہ نوائمه اہل بیت نبوی کے علم الحدیث کے وارث

گزشتہ سطور میں کثیر دلائل سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ امام اعظم اکابر صحابہ کرام، خلفاء راشدین اور ازاد واج مطہرات کے علم الحدیث کے وارث ہیں اسی طرح امام اعظم کے دور میں اہل بیت نبوی کے جتنے امام موجود تھے اور جن سے علم نبوت کے چشمے جاری ہو رہے تھے آپ نے ایک ایک کی بارگاہ میں زانوئے تلمذ طے کیا۔ اہل بیت اطہار میں سے نواکبر حضرات امام اعظم کے شیوخ ہیں۔ اہل بیت اطہار ہونے کی حیثیت سے ان میں سے اکثر کا علمی سلسلہ سیدنا مولا علی مرتفعی کے توسط سے حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ تک جاتا ہے۔

فقہ و حدیث کے کسی بھی امام کو امام ابوحنیفہ کی طرح کثیر ائمہ اہل بیت سے فیضیاب ہونے کا یہ شرف نصیب نہیں ہوا۔

نئمہ اہل بیت اطہار میں

- (۱) امام ابو جعفر محمد باقر بن امام زین العابدین (متوفی ۱۱۲ھ)
- (۲) امام زید بن امام زین العابدین (متوفی ۱۲۲ھ)
- (۳) امام عبد اللہ بن امام زین العابدین (متوفی.....)
- (۴) امام ابو عبد اللہ جعفر صادق بن امام محمد باقر (متوفی ۱۳۸ھ)
- (۵) امام عبد اللہ بن حسن شنی (متوفی ۱۳۵ھ)
- (۶) امام حسن مثلاش بن حسن شنی (متوفی ۱۳۵ھ)
- (۷) امام حسن بن زید (متوفی ۱۶۸ھ)
- (۸) امام حسن بن محمد بن حنفیہ (متوفی ۹۹ھ)
- (۹) امام جعفر بن تمام بن عباس (.....)

سے امام اعظم نے احادیث روایت کی ہیں اور بلا واسطہ انہمہ اہل بیت اطہار کے علم الحدیث کے وارث ہیں۔

امام اعظم تاریخ اسلام کی وہ واحد علمی شخصیت ہیں جو نہ صرف خلفاء راشدین المہدیین، صحابہ کرام اور تابعین عظام کے علم الحدیث کے جامع ہیں۔

یہ اسانید اعلیٰ وارفع ہونے کے ساتھ ساتھ منفرد اور یکتا بھی ہیں کہ امام اعظم کے علاوہ روئے زمین پر فقہ و حدیث کا کوئی اور امام براہ راست ان مقدس شخصیات سے علمی خوشہ چینی کا دعوے دار نہیں۔ ان سلاسل عظیمه سے نسبت کی بدولت آپ علم اہل بیت اور فیضان اہل بیت کے بھی وارث ہیں۔

امام اعظم عالم اسلام کی پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث سے احکام و مسائل استنباط کر کے فقہ کو پہلی بار مدون کیا اور علم الفقہ کو بطورِ فنِ امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا ہذا عالم الفقہ کے اصول وضع کرنے والے اور شریعت محمدی کو فقہی ابواب کے مطابق تخلیل و ترتیب دینے والے امام ابوحنیفہ خود ہی ہیں۔ امام مالک نے المؤطما میں آپ کے مرتب کردہ فقہی ابواب کا اسلوب اختیار کرنے میں آپ کی پیروی کی اور بعد کے انہمہ اسی ترتیب ابواب کے مطابق اپنی کتب احادیث اور فقہ کی ترتیب و تدوین کرنے لگے۔

امام ابوالموید محمد خوارزمی (متوفی ۲۶۵ھ) نے اس حقیقت کا اظہار اپنی کتاب جامع المسانید / ۳۲، میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن حجر الہنفی کی شافعی (متوفی ۴۹۷ھ) نے بھی اپنی کتاب الخیرات الحسان میں اس امر کا اظہار کیا ہے۔

امام اعظم اور دیگر انہمہ فقہ و حدیث کے شیوخ کی تعداد کا تقابل

امام اعظم کے خلاف یہ پروپیگنڈہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کو صرف ستہ حدیثیں آتی تھیں یا آپ کے پاس بڑا تقلیل ذخیرہ حدیث تھا۔ حاسد مخالفین کی طرف سے اس بے سرو پا الزام کو ذہن میں رکھ کر ان کی پوری فقہی اور دینی خدمات کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ پوری علمی تاریخ میں نہیں بولا گیا۔

امام زرقانی کی کتاب شرح المؤطرا (۲/۱) کے مطابق امام مالک کے شیوخ اور اساتذہ کی تعداد نو سو سے زیادہ ہے۔ امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء (۱۸۱/۱۱) کے مطابق امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب المسند میں دو سو اسی شیوخ سے احادیث روایت کی ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب مقدمۃ فتح الباری (۶۲۲) میں ہے کہ امام بخاری کے اپنے بیان کے مطابق ان کے شیوخ و اساتذہ ایک ہزار اسی ہیں۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء (۵۶۱/۱۲۱) میں امام مسلم کے شیوخ و اساتذہ کی تعداد دو سو پیسے بتائی ہے جن سے آپ نے صحیح مسلم میں روایات لی ہیں۔ امام ترمذی کے دو سو کیس شیوخ کی ہیں۔ تهذیب التهذیب (۱۵۱/۳) میں امام ابن حجر عسقلانی نے امام ابو داؤد کے شیوخ کی تعداد تین سو پیسے بتائی ہے، یہ تعداد ان کی اسب کتب کو ملا کر ہے۔ سیر اعلام النبلاء (۱۲۵/۱۲۵) میں امام ذہبی نے امام نسائی کے ستر شیوخ کا ذکر کیا ہے۔ امام ابن ماجہ کے شیوخ کی تعداد امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء (۲۷/۱۳) میں تیس لکھی ہے لیکن کل شیوخ کی تعداد کا تعین کسی نے نہیں کیا۔

اساتذہ ائمہ کی کثرت جہاں محدثین کے ذوق علم الحدیث کی غماز ہے وہاں ان کے وسعت علم الحدیث کی دلیل بھی ہے اسی لیے اکابر محدثین کے اساتذہ کی تعداد کم از کم دو سو سے لے کر زیادہ ایک ہزار اسی تک پہنچتی ہے۔

امام اعظم اس حوالے سے بھی تمام ائمہ حدیث کے مقابلے میں منفرد مقام پر فائز ہیں کیوں کہ آپ کے شیوخ کی تعداد ان سب سے زیادہ چار ہزار ہے۔

امام اعظم نے چار ہزار اساتذہ سے علم الحدیث حاصل کیا۔ اساتذہ امام اعظم کی یہ تعداد امام موفق بن احمد کی نے مناقب الامام ابی حنیفة (۱/۳۸) میں، امام خوارزمی نے جامع المسانید (۱/۳۲) میں، امام ابن بزا ذکر دری نے مناقب الامام الاعظم (۱/۲۸) میں، امام ابن حجر کی شافعی نے الخیرات الحسان (۳۶) میں اور امام محمد بن یوسف صالحی شامی نے عقود الجuman (۶۳) میں بیان کی ہے۔

بعض ائمہ کرام نے ناموں کے ساتھ امام اعظم کے شیوخ حدیث کا تذکرہ اپنی کتابوں

میں کیا ہے۔ ایک سوچیں شیوخ حدیث کے نام آپ کے اکثر تذکرہ نگاروں نے لکھے ہیں۔ امام اعظم نے اپنے جن جلیل القدر محدث شیوخ سے روایت کیا ہے وہ سب عادل اور ثقہ تھے۔ امام صاحب کے شیوخ کے عدول اور ثقہ، ہونی کی کئی وجہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو حضور اکرم ﷺ سے تقرب زمانی حاصل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ دور قرنیہ وضع حدیث سے محفوظ تھا اور احادیث موضوع کا وجود نہ تھا۔

امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن حبان اور امام ابن خزیمہ اور بعد میں آنے والے جتنے بھی محدثین نے احادیث روایت کیں ان کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تک کم از کم تین، چار اور پانچ واسطے ہیں ان واسطوں میں امام اعظم کے سلسلہ اسانید کی طرح صرف صحابہ کرام اور اکابر تابعین نہیں بلکہ ان میں اکابر کے ساتھ وسطیٰ اور اصغر درجات کے تابعین و تبع تابعین رواۃ شامل تھے۔

دیگر اعممہ حدیث کی نسبت آپ کا زمانہ حضور نبی اکرم ﷺ سے انتہائی اقرب تھا، آپ دور صحابہ میں پیدا ہوئے اور خود تابعی تھے لہذا حضور نبی اکرم ﷺ سے اس اقرب زمانی کی بدولت آپ کو جن شیوخ سے بھی احادیث ملیں وہ یا تو صحابہ کرام تھے یا کبار تابعین تھے یا کم از کم اکابر تابعین تھے چوں کہ امام اعظم کے تابعین شیوخ بلا واسطہ صحابہ کرام اور اکابر تابعین کے فیض یافتگان اور تربیت یافتہ تھے اس لیے ان کے صدق و اخلاص اور خلوص ولہیت پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

امام اعظم کے سب شیوخ کے عادل اور ثقہ ہونے پر دوسری دلیل یہ ہے کہ دور ما بعد کے محدثین کو صرف بعد زمانی کا ہی سامنا نہیں کرنا پڑا بلکہ بدعتی فرقوں کے وجود میں آنے کے سبب احادیث کی جانچ پڑتاں کے لیے وقت نظری کے ساتھ ساتھ بالالتزام اسناد کے ساتھ حدیث بیان کرنے کی روایت پختہ تر ہوتی چلی گئی جو کہ اس سے پہلے صحابہ اور تابعین کے ادوار میں نہ تھی۔

امام اعظم کے انہی عادل اور ثقہ شیوخ کے متعلق امام عبدالوہاب شعرانی شافعی مصری (متوفی ۲۷۹ھ) کہتے ہیں کہ مجھے امام ابوحنیفہ کی تین مسانید یکھنے کا موقع ملا ہے میں نے ان میں دیکھا:

لا يروى حديثاً إلا عن خيار التابعين العدول الثقات، الذين هم من خير القرون بشهادة رسول الله ﷺ كالأسود، وعلقة، وعطاء، وعكرمة، مجاهد، ومكحول والحسن البصري وأضرابهم رضي الله تعالى عنهم فكل الرواية الذين هم بينه وبين رسول الله عدول ثقات أعلام، اختيار، ليس فيهم كذاب ولا متهم بکذاب.

(ميزان الشريعة الكبرى: ١/٦٨)

کہ امام ابوحنیفہ ثقات، عدول اور خیارتا بعین کے سوا کسی سے ایک حدیث بھی روایت نہیں کرتے۔ یہ تابعین وہی ہیں جن کو حضور نبی اکرم ﷺ کی زبان اقدس سے خیر القرون میں شمار کیا گیا ہے، ان میں اسود، علقة، عطاء، عكرمة، مجاهد، مکحول، حسن بصری اور ان جیسے دوسرے اکابر تابعین شامل ہیں (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) پس حضور نبی اکرم ﷺ اور ان کے درمیان سارے رواة عدول، ثقات، نہایت بلند پایہ اور بہترین اوصاف کے حامل تھے۔ ان میں کوئی بھی کذاب اور متهم بالکذب نہیں تھا۔

امام اعظم رضی اللہ عنہ امام بخاری کے شیخ الشیوخ

امام بخاری کے والد کا اسم گرامی اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الجعفی البخاری ہے۔ ان کے دو شیوخ جن کے نام امام عبد اللہ بن مبارک اور امام حماد بن زید ہیں وہ دونوں امام اعظم کے شاگردوں ہیں۔ ان دو طرق سے امام بخاری امام اعظم کے پڑپوتے شاگردوں ہیں۔ امام کمی بن ابراہیم، امام ضحاک بن مخلد، امام محمد بن عبد اللہ الانصاری، امام ابو عبد الرحمن المقری، امام ابو محمد عبد اللہ بن موسی کوفی، ابو نعیم فضل بن دکین امام بخاری کے شیخ ہیں اور امام اعظم کے شاگردوں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اسانید اور طرق ہیں جن میں امام بخاری کے شیخ امام اعظم کے شاگرد یا شاگرد کے شاگردوں ہیں الہذا، ان طرق سے ثابت ہے کہ امام اعظم امام بخاری کے شیخ الشیوخ ہیں۔ تبھی وجہ ہے کہ ان دلائل کے ہوتے ہوئے کسی بھی صاحب علم کو امام اعظم کے امام الائمه فی الحدیث ہونے پر انکار کی گنجائش نہیں۔

امام بخاری کی ثلاشیات کے راوی بھی امام اعظم کے تلامذہ

امام بخاری کی سند عالیٰ مثلاً ہے:

امام بخاری کی سب سے اعلیٰ سند تین واسطوں سے ہے جسے اصطلاح محدثین میں مثلاً ثابت کا نام دیا گیا ہے۔ امام بخاری کی تین واسطوں سے کل مرویات بائیکس احادیث ہیں اور امام بخاری کی بائیکس مثلاً ثابت پانچ راویوں سے مروی ہیں۔

پانچ راویوں کے مثلاً ثابت کو روایت کرنے کی درج ذیل ترتیب بنتی ہے:

(۱) خلاد بن یحییٰ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے۔

(۲) عصام بن خالد سے بھی ایک حدیث مبارکہ مروی ہے۔

(۳) محمد بن عبد اللہ الانصاری سے تین احادیث مبارکہ مروی ہیں۔

(۴) ابو عاصم ضحاک بن مخلد النبیل سے چھا احادیث مبارکہ مروی ہیں۔

(۵) کعب بن ابراهیم سے گیارہ احادیث مبارکہ مروی ہیں۔

امام بخاری کی بائیکس مثلاً ثابت میں سے اکیس کے راوی امام اعظم ﷺ کے شاگرد ہیں۔

بڑی ایمان افروز اور خاص بات یہ ہے کہ مذکورہ بالا راویوں سے امام بخاری نے بائیکس میں سے اکیس حدیثیں لی ہیں اُن اکیس مثلاً ثابت بخاری کے چاروں راوی امام اعظم ابوحنیفہ کے حنفی المذہب شاگرد ہیں اور امام بخاری کے شیخ ہیں۔

یہ اسانید امام بخاری کا سب سے بڑا سرمایہ افتخار ہیں۔ صحیح البخاری کی بائیکس مثلاً ثابت میں سے ان اکیس کے راویوں کو جو کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، ایک طرف کردار یا جائے تو امام بخاری کا مثلاً ثابت کے ضمن میں امتیاز و افتخار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مثلاً ثابت بخاری کے وہ چار روایۃ جو امام بخاری کے شیخ اور امام اعظم کے شاگرد ہیں ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) امام کعب بن ابراهیم بلخی (متوفی ۲۱۵ھ) سے سب سے زیادہ گیارہ مثلاً ثابت بخاری مروی ہیں۔ یہ صحاح ستہ میں سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کے راوی ہیں جب کہ امام اعظم ابوحنیفہ کے شاگرد ہیں۔ (تہذیب الکمال ۲۸/۲۷، از امام مزی)

(۲) امام ابو عاصم ضحاک بن مخلد النبیل (متوفی ۲۱۲ھ) سے چھ تلاشیات بخاری مروی ہیں۔ یہ صحاح ستہ کی تمام کتب کے راوی ہیں امام بخاری کے شیخ ہیں اور امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ (سیر اعلام العباداء ۶/۳۹۳ھ از امام محمد ذہبی)

(۳) امام محمد بن عبد اللہ الانصاری (متوفی ۲۱۵ھ) سے تین تلاشیات بخاری مروی ہیں۔ یہ بھی تمام کتب صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ امام مزی اور امام ذہبی کی تحقیق کے مطابق امام محمد بن عبد اللہ الانصاری، امام اعظم کے محدثین تلامذہ میں سے ہیں۔

(تہذیب الکمال ۲۹/۳۲۱، سیر اعلام العباداء ۶/۳۹۳ھ)

(۴) امام خلاد بن یحییٰ مسلمی (متوفی ۲۱۳ھ) امام بخاری کی بائیں تلاشیات میں سے ایک حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد کے راوی بھی ہیں۔

(میزان الاعتدال ۲/۳۳۶، از امام ذہبی)

یہ چاروں محدثین حضرات امام اعظم کے وہ شاگردوں ہیں جنہوں نے امام بخاری کی اکیس تلاشیات کو روایت کیا ہے باقی صرف ایک رہ جاتی ہے جو امام بخاری نے امام اعظم کے شاگردوں کے علاوہ اپنے ایک شیخ عصام بن خالد سے لی ہے۔

امام اعظم بارہ طرق سے امام بخاری کے شیخ الشیوخ ہیں اور گیارہ طرق سے امام ابوحنیفہ صرف دو واسطوں سے انہہ صحاح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کے پڑوادا شیخ بنتے ہیں اور یہ بھی جلیل القدر انہہ امام اعظم کے پڑوادے شاگردوں گئے۔

اسی طرح امام اعظم امام محمد بن حسن شیبانی کے واسطے سے امام شافعی کے شیخ ہیں۔ دوسرے طرق سے امام مسلم بن خالد زنجی کے واسطے سے امام محمد بن اور لیں شافعی کے شیخ ہیں۔ تیسرا سند میں امام علی بن ظبیان کے واسطے سے امام شافعی کے استاذ ہیں۔ چوتھی سند میں امام عبدالجید بن عبد العزیز کے واسطے سے امام شافعی کے استاذ ہیں۔

اسی طرح امام اعظم بارہ طرق سے امام احمد بن حنبل کے شیخ ہیں۔ پہلی سند میں امام اعظم اور امام احمد بن حنبل کے درمیان واسطہ امام محمد بن حسن شیبانی ہیں۔ دوسری سند میں قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم ہیں۔ تیسرا سند میں امام ہشیم بن بشیر ہیں۔ چوتھی سند میں امام

عبد بن عوام ہیں۔ تیسرا سند میں امام اسحاق بن یوسف ازرق ہیں۔ چھٹی سند میں امام وکیع بن جراح ہیں، ساتویں سند میں امام علی بن عاصم واسطی ہیں۔ آٹھویں سند میں امام جعفر بن عون ہیں۔ نویں سند میں امام عبد الرزاق بن ہمام ہیں، دسویں سند میں امام ضحاک بن مخلد ہیں۔ گیارہویں سند میں امام عبد اللہ بن یزید مقری ہیں۔ بارہویں سند میں امام فضل بن دکین ہیں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ائمہ صحاح ستہ کے ساتھ ساتھ ائمہ فقہ بھی کثیر طرق اور اسانید سے صرف ایک واسطے سے امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی چار واسطوں سے امام اعظم کے پوتے شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل بارہ طرق سے امام اعظم کے پوتے شاگرد ہیں۔ یہ ساری اسانید امام اعظم کے ان اکابر تلامذہ کے طرق سے ہیں کہ امام اعظم کے یہاں مشرق و مغرب سے حاضر ہونے والے جید تلامذہ کے ذریعہ آپ کا علم الحدیث اور فقه الحدیث زمین کے طول و عرض میں پہنچا جس سے اکابر محدثین اور افاضل فقہاء جن میں ائمہ صحاح اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل شامل ہیں، نے استفادہ کیا۔

امام اعظم سے امام بخاری کے عدم روایت کی وجہات پر بحث و تحقیق

امام اعظم پر ایک بڑا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری نے امام اعظم سے اس لیے روایت نہیں لی کیوں کہ وہ امام اعظم کو حدیث میں غیر ثقہ اور ضعیف سمجھتے تھے۔ درحقیقت یہ ایک ایسا بے بنیاد اور غیر حقیقی الزام ہے جو ناقدین امام اعظم اور مکرین عظمت ابوحنیفہ نے فقط خواہش نفس کے زیر اثر وضع کیا ہے۔

یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ امام بخاری نے امام اعظم سے کوئی روایت نہیں لی لیکن صرف اس بنیاد پر دعویٰ کرنا کہ امام اعظم غیر ثقہ تھے انتہائی لغو اور بے حقیقت بات ہے جو صرف مفترضین اور متعصبین امام اعظم کا خاصہ ہے۔ امام بخاری کی جملہ تصنیفات کو کھنگال لیا جائے اور ان سے متعلقہ تمام کتب کی ایک ایک سطر دیکھ لی جائیں لیکن کہیں بھی کوئی ایک قول یا بیان ایسا نہیں پاسکتے جس میں امام بخاری نے امام اعظم کو غیر ثقہ کہہ کر مسترد کیا ہو یا ان سے عدم اور اخذ حدیث کا سبب مخالفین کی اس تاویل باطل کو قرار دیا ہو۔

کسی محدث کا دوسرے محدث سے حدیث روایت نہ کرنا اس کے ضعف کے باعث نہیں ہوتا بلکہ اس کے دیگر اسباب ہوتے ہیں۔ اگر امام بخاری نے اپنی صحیح میں کسی محدث سے حدیث روایت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اس عمل سے اس محدث کا علمی مقام کم ہو گیا ہے۔ ایسا کہنے والا محدث شیخ کے اخذ حدیث کرنے کے قواعد و ضوابط اور رواۃ حدیث کے حالات و واقعات سے صحیح طور پر آگاہ نہیں۔

معترضین کا یہ سوال کہ امام بخاری کا امام اعظم سے عدم روایت ان کے ضعف یا غیر ثقہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، اگر درست مان لیا جائے تو پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری سمیت امام مسلم نے صحیحین میں کوئی ایک روایت بھی امام شافعی کی سند سے نہیں لی۔ حالاں کہ امام شافعی تو ان کے نزدیک ضعیف یا غیر ثقہ نہیں سمجھے جاتے تھے۔ امام بخاری جو خود شافعی ہیں یا مائل ہے شافعیت ہیں لیکن جس طرح امام بخاری نے امام ابو حنیفہ سے کوئی حدیث نہیں لی اسی طرح پوری صحیح البخاری میں امام بخاری نے ایک حدیث بھی امام شافعی کے واسطہ سے نہیں لی۔ امام قسطلانی نے ارشاد الساری (۱/۳۳) میں امام بخاری کے متعلق لکھا ہے:

لَمْ يَرُوئِي عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الصَّحِيحِ۔ امام بخاری نے امام شافعی سے (صحیح البخاری) میں کوئی روایت نہیں کی۔

امام بخاری کی طرح امام مسلم نے بھی اپنی **الصَّحِيحِ** میں امام شافعی کے طریق سے ایک روایت بھی نہیں لی تو کیا معترضین کے نزدیک شیخین نے امام شافعی کو بھی حدیث میں غیر ثقہ سمجھ کر ان سے روایت نہیں لی؟ کیا اس سے یہ اخذ کیا سکتا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک امام شافعی روایت حدیث میں ثقہ اور معتبر نہیں تھے؟ ضعیف الحدیث تھے؟ ہرگز نہیں۔

امام بخاری، امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں آٹھ مرتبہ ان کے پاس بغداد گئے، ان کی زیارت کی اور برآہ راست ان سے سماع کیا، اس کے باوجود امام بخاری نے پوری **الجامع الصَّحِيحِ** میں امام احمد بن حنبل سے برآہ راست صرف ایک حدیث روایت کی ہے وہ بھی موقوفاً۔ کیا اس سے امام بخاری کے نزدیک امام احمد بن حنبل ضعیف الحدیث قرار پاتے ہیں؟

ہرگز نہیں بلکہ اس کی دیگر وجوہات ہیں۔

امام بخاری کے ایک شیخ امام محمد بن یحییٰ بن عبداللہ بن خالد الدھلی ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں مقامات پر امام ذہلی سے حدیث روایت کی ہے مگر چند وجوہات کی بنا پر امام بخاری نے امام ذہلی کا نام نہیں لکھا ہے۔ کسی جگہ امام بخاری نے ان سے روایت کرتے ہوئے باپ کی طرف نسبت کی ہے کہیں دادا کی طرف نسبت کی ہے کہیں پردادا کی طرف۔ امام محمد بن یحییٰ ذہلی نے آپ کا شاندار استقبال کیا، لیکن نام ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ امام بخاری پر تہمت لگادی کہ یہ خلق قرآن کے قائل ہیں جب امام ذہلی نے یہ سناتا امام بخاری سے سخت تنفر ہو گئے اور لوگوں کو امام بخاری کے درس میں جانے سے روکتے تھے۔ امام ذہلی نے اس حدیثک امام بخاری کی مخالفت کی کہ نیشاپور میں اعلان کرویا کہ اس شہر میں اس شخص کے ساتھ میری سکونت نہیں ہو سکتی۔ اس کے نتیجے میں امام بخاری خوف زدہ ہو کر نیشاپور سے کوچ کر گئے۔ ان مختلف اسباب اور وجوہات کی بنا پر امام ذہلی کی تضعیف نہیں کی جاسکتی نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ امام ذہلی ضعیف الحدیث اور غیر معتر تھے۔

اس سلسلے میں نہایت دلچسپ بات یہ ہے کہ امام مسلم خود امام بخاری کے شاگرد ہیں ان سے احادیث کی سماحت کی ہے لیکن امام مسلم نے اپنی صحیح میں امام بخاری سے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی۔ جتنی احادیث بھی ان سے نقل کی ہیں وہ صحیح مسلم کے علاوہ دیگر کتب میں ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد تینوں امام ترمذی کے شیخ ہیں امام ترمذی نے عمل الحدیث کے باب میں ایک سو چودہ مقامات پر امام بخاری سے استفادہ کیا ہے مگر اپنی پوری کتاب ترمذی میں ان سے چند احادیث روایت کی ہیں۔ اسی طرح امام ترمذی نے امام ابو داؤد سے بھی صرف تین احادیث روایت کی ہیں جب کہ بطور شاگرد ان حضرات سے کثیر استفادہ کیا۔ امام ترمذی اور امام مسلم دونوں سفروں میں اکٹھے رہے ہیں امام ترمذی اپنے ہم عصروں پر اس سلسلے میں فخر و مبارکات فرماتے تھے۔ اس شدت قرب کے باوجود امام ترمذی نے اپنی کتاب ”سنن ترمذی“ میں امام مسلم سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے۔

اسی طرح ائمۃ مصحاب ستہ میں سے امام نسائی بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں لیکن امام

قطلانی کی تحقیق کے مطابق امام نسائی نے اپنی "اسن" میں امام بخاری سے روایت نہیں کی۔ امام بخاری کے نزدیک امام اعظم سے حدیث نہ لینے کا سبب ان کا غیر ثقہ، ضعیف یا قلیل الحدیث ہونا نہیں بلکہ ایک علمی اختلاف کی وجہ سے تھا۔ امام اعظم اور امام بخاری کے درمیان علمی اختلاف "ایمان" کی تعریف پر تھا۔ امام بخاری ایمان کی تعریف میں قول اور عمل دونوں کو شامل کرتے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح البخاری میں کتاب الایمان کے پہلے باب کا آغاز کرتے ہوئے ایمان کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے وَهُوَ قَوْلٌ وَفَعْلٌ۔ ایمان قول اور فعل کا نام ہے۔ امام اعظم کے مطابق ایمان صرف دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کا نام ہے جیسے إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ۔ کہا جاتا ہے۔

امام اعظم نے اپنی کتاب الفقه الکبر (۱۳۱) میں لکھا ہے:

الإِيمَانُ هُوَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْجِنَانِ۔

ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔

ایمان کی تعریف پر بھی بنیادی علمی اور اعتقادی اختلاف تھا جس کی وجہ سے امام بخاری نے امام اعظم کے طریق سے حدیث روایت نہیں کی۔ جو محمد شین ایمان کی تعریف میں امام بخاری کے ہم خیال تھے آپ نے انہیں سے احادیث روایت کیں۔ امام اعظم ایمان کی تعریف میں امام بخاری کے ہم خیال نہیں تھے اس لیے امام بخاری نے امام اعظم سے احادیث روایت نہیں کی۔ اس علمی اختلاف کو نقل کر کے امام بخاری نے دیانت داری کا ثبوت دیا اور یہ ظاہر کر دیا کہ وہ امام اعظم کو قطعاً غیر ثقہ اور غیر معتبر نہیں سمجھتے تھے بلکہ مخالفین نے اس طرح کے الزامات خود لگائے ہیں۔

ایمان کی جو تعریف امام اعظم کرتے تھے اس زمانے میں فرقہ مرجہ بھی بھی تعریف کرتا تھا مخالفین نے یہ موقع دیکھ کر امام اعظم پر مرجہ ہونے کا الزام لگایا اور مشہور کر دیا کہ امام بخاری نے اس لیے امام ابوحنیفہ سے احادیث روایت نہیں کی۔

لیکن تاریخ اور علمی تحقیق و تجویز کے بعد اس الزام کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جس طرح امام بخاری پر الفاظ قرآن کے مخلوق ہونے کا بے بنیاد الزام لگنے کے باوجود ادن کی

روایت حدیث اور عدالت پر کوئی اثر نہ پڑا، اسی طرح امام اعظم پر بھی مر جھے کا بے بنیاد الزام لگنے سے ان کی عدالت و ثقاہت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

واضح رہے کہ امام بخاری کے متعدد ایسے شیوخ ہیں جن پر نہایت شدود مکے ساتھ مر جھے ہونے کا الزام لگایا گیا ہے اور امام بخاری نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔

اس تحقیق و تفصیل کا مطالعہ کرنے کے بعد کوئی بھی منصف مزاج انسان امام اعظم کے تعلق سے مر جھے اور ضعیف الحدیث ہونے کا قول نہیں کرے گا۔

امام اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث

امام اعظم سے مروی احادیث کا جائزہ لینے سے پہلے مختصر احادیث کی دو بنیادی اصطلاحات کا ذکر کر دینا ضروری ہے (۱) سند (۲) متن

(۱) روأة اور رجال کا وہ سلسلہ جو متن حدیث تک پہنچاتا ہے اسے سند کہتے ہیں۔

(۲) سند کے بعد والا کلام یا جہاں تک سند پہنچتی ہے اسے متن حدیث کہتے ہیں۔

فرمان رسول بے شک سلسلہ سند سے جدا اور الگ ہے مگر اس کی صحت اور ثقاہت کا دار و مدار رجال حدیث کی ثقاہت پر ہے۔ حدیث کے رجال جتنے زیادہ ثقہ اور پختہ ہوں گے حدیث اسی قدر جھوٹ اور کذب سے محفوظ ہوگی۔

علم الحدیث میں علم الاسناد کو اہم مقام حاصل ہے۔ یہ علم، حدیث میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے جس کے باعث راویوں کے عدل و ضبط اور ضعف و کذب کی چھان بین کی جاتی ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر علماء اسلام نے اسے ”دین“ قرار دیا ہے۔

امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت سفیان ثوری (متوفی ۱۶۱ھ) نے فرمایا:

الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح، فبأي شيء يقاتلُ.

(سیر اعلام الدبلاء/ ۲۷۳- امام ذہبی)

اسناد موسمن کا اسلحہ ہے پس جب اس کے پاس اسلحہ نہ ہو تو وہ کس چیز سے لڑے گا۔

امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبد اللہ بن مبارک (متوفی ۱۸۱ھ) نے فرمایا:

الاسناد من الدین، ولولا الاسناد لقالَ مَنْ شاءَ ما شاءَ

(مقدمة الصحيح لمسلم ۱/۱۵)

اسناد ہیں ہے اگر اسناد نہ ہو تو پھر کوئی بھی شخص جو مرضی ہو کہتا پھر ہے۔

علم الاسناد درحقیقت اس امت کے خصائص سے ہے۔ مختلف اسباب اور عوامل کے پیش نظر سند کی مختلف فرمیں ہیں، ان اقسام مشہور و معروف میں سند عالی اور سند نازل بھی ہے اصطلاح محدثین میں ان کی تعریف یہ ہے:

(۱) عالی اسناد: وہ سند جو زمانہ کے اعتبار سے حضور نبی کریم ﷺ سے قریب ہو یعنی وہ سند جس کے راویوں کی تعداد اس دوسری سند کے اعتبار سے قلیل ہو جس کے ساتھ وہ حدیث زیادہ راویوں سے مروی ہو۔

(۲) نازل اسناد: وہ سند جو زمانہ کے اعتبار سے حضور نبی اکرم ﷺ سے دور ہو یعنی وہ سند جس کے راویوں کی تعداد اس دوسری سند کے اعتبار سے زیادہ ہو جس کے ساتھ وہ حدیث قلیل راویوں سے مروی ہو۔

مثلاً متن حدیث ایک ہی ہو مگر دو سندوں سے مروی ہو، ایک سند میں رجال کی تعداد والی ”سند نازل“ ہو گی۔

جب ہمارا تمہارے حدیث کے مطابق عالی اسناد کو نازل اسناد پر فوقيت اور فضیلت ہے۔

تمہارے حدیث کے احوال کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری زندگی عالی سند کے حصول میں تک دوکرتے رہے اور اپنے تلامذہ کو رغبت دلاتے رہے۔

اعلیٰ اسانید کے تین درجات

اصطلاح محدثین میں اعلیٰ اسانید کے تین درجات ہیں:

(۱) احادیث: جس سند میں راوی اور حضور اکرم ﷺ کے درمیان صرف صحابی کا واسطہ ہو۔

(۲) ثنائیات: جس سند میں راوی اور حضور اکرم ﷺ کے درمیان صحابی اور تابعی (صرف دور رواة) کا واسطہ ہو۔

(۳) ثلائیات: جس سند میں راوی اور حضور اکرم ﷺ کے درمیان صحابی، تابعی اور تبع تابعین (صرف تین روایت) کا واسطہ ہو۔

یہ بات بڑی اہم ہے کہ امام مالک کی ثلائیات کے علاوہ جتنے بھی محدثین کی کتب وستیاب ہیں ان سب کی اعلیٰ اسانید ثلائیات ہیں۔

اس سلسلہ میں امام سخاوی کی درج ذیل تحقیق ملاحظہ کریں وہ لکھتے ہیں:

”امام مالک کی سب سے اعلیٰ اسانید دو واسطوں سے ”ثلائیات“ ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن خبل سے کثیر احادیث تین واسطوں سے مروی ہیں جنہیں اصطلاح محدثین میں ”ثلائیات“ کہتے ہیں، یہی ثلائیات امام بخاری سے باقی، امام ابو داؤد اور امام ترمذی سے ایک ایک جب کہ امام ابن ماجہ سے پانچ مروی ہیں۔ امام مسلم اور امام نسائی کی سب سے اعلیٰ اسانید چار واسطوں سے ہیں، اس سے کم واسطے سے ان کی کوئی حدیث نہیں ہے، انھیں اصطلاح حدیث میں ”رباعیات“ کہا جاتا ہے۔“

امام محمد بن اوریس شافعی (متوفی ۲۰۲ھ) کی ”منڈ“ میں ۷۳ ملائی احادیث مروی ہیں۔

امام احمد بن خبل (متوفی ۲۲۱ھ) کی منڈ میں دیگر ائمہ حدیث کی نسبت بہت زیادہ تعداد میں ثلائیات ہیں۔ کل ثلائیات مند احمد کا شمار انہائی دشوار ہے محققین نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق مند احمد میں تین سو سینتیس، تین سو تریس اور تین سو اکتیس کی تعداد لکھی ہے۔ صحیح حصر و شمار مشکل امر ہے۔

امام عبد بن حمید الکسی (متوفی ۲۳۹ھ) کی منڈ میں اکیاون ثلائیات ہیں۔ امام عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی (متوفی ۲۵۵ھ) کی ”سنن دارمی“ میں پندرہ ثلائیات ہیں۔ امام سلیمان بن احمد طبرانی (متوفی ۳۶۰ھ) کی المعجم الصغیر میں تین ثلائیات ہیں۔

مذکورہ بالا تمام کتب حدیث میں ثلائیات کو باقی احادیث سے اعلیٰ اور افضل گردانا جاتا ہے۔ محدثین کی ان ملائی احادیث کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے امام سخاوی کی فتح المغیث، امام سیوطی کی تدریب الراوی امام محمد بن جعفر رکنی کا الرسالة المستطرفة ملاحظہ فرمائیں۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو دطیا کی، امام عبد بن حمید، امام داری اور امام طبرانی سمیت کسی بھی اجل محدث اور امام فی الحدیث کے پاس مثالیات سے کم واسطہ کی کوئی ایک بھی حدیث نہیں۔

اس لحاظ سے امام مالک کو ان پروفیت حاصل ہے کہ ان سے دو واسطوں سے ثانیات مروی ہیں۔ گویا نامور محدثین میں صرف عالم دار الجرۃ امام مالک واحد شخصیت ہیں جن سے کم از کم دو واسطوں سے احادیث رسول مروی ہیں۔ امام مالک کے علاوہ کل محدثین کے پاس تین واسطوں سے کم سند سے کوئی بھی حدیث نہیں، تو یہ بات بڑی خوش کن اور قلبیطمینان کا باعث ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ کو صرف ایک واسطہ سے حدیث رسول حاصل ہے گویا امام اعظم ابوحنیفہ کے بعد روئے زمین پر کوئی بھی ایسا محدث نہیں جس کا حضور نبی اکرم ﷺ تک اقرب طریق یا سب سے چھوٹی سند ایک واسطہ سے ہو، ائمۃ حدیث میں سے یہ شرف صرف امام اعظم ابوحنیفہ کو حاصل ہے۔

صحابہ کرام سے براہ راست روایت کرنے کے سبب سے حضور نبی اکرم ﷺ اور امام ابو حنیفہ کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے۔ اصول حدیث میں ایک واسطے سے روایت ہونے والی حدیث کو اصطلاحاً وحدان کہا جاتا ہے، بعض کتابوں میں اس کا نام ثنائی اور ثلاثی کے وزن پر احادیث بھی ہے۔ جب کہ باقی معروف ائمۃ حدیث میں سے کسی ایک امام کی سند سند عالی احادیث نہیں ہے۔

امام جلال الدین سیوطی شافعی اور امام ابن حجر یعنی کمی شافعی وغیرہ محدثین نے تحقیق کر کے سات احادیث اپنی کتابوں میں بیان کی تھیں جو امام اعظم ابوحنیفہ نے بذریعہ صحابی ایک واسطے سے روایت کی ہیں۔

ان محدثین میں ایک نام امام شیخ ناصر السنّۃ أبی المکارم عبد اللہ بن حسین النیسابوری الحنفی کا بھی ہے۔ ان کی کتاب الأحادیث السبعۃ عن سبعة من الصحابة الذی روی عنہم الامام أبوحنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ، تعارف اور تخریج پیش خدمت ہے۔

مکتبہ حرم کی سے مطبوع اصل کتاب کا صفحہ اول

مکتبہ حرمکی سے مطبوع نسخہ ثانی کا نمونہ

للسنة الحجرة في حكم اميرنا الشهيد العالى ابراهيم بن عبد الله بن مسراح
سنة الاربعين عستمائه قال اخوه ابراهيم اميرنا العالى ابراهيم اميرنا العالى
الحادي عشر من شهر الحسنة ابوالدهان عبد الله بن ابي ابيه بن سعيد
المسعود الديبا بار كعب سفاما عاصي ورجب الفراتي شهادان والرازي
فتحها لعنه قال اصحاب رئاستهم شهادان حوده واربعين دكت لها شهادتها
وعذرها (صريح) لغيرها لا ينتهي بحسب المدخل لكنه انتهى باصحابها وعيالها
الكاربون لشدة وزرها فصلها فصلها وهذا سعادها فصلها
فذلك (حادي عشر) السبعة المسموحة استثنى العادة ولما امرت ائمة ائمة العوام
بنهاية راتبها لعدم منعها من اصحابها اذ لم ينفعها بغيرها سعادها المجمع
قال اخوه اميرنا عاصي لما امر بالشروع العوام في شهادتها وسعادها
قال العزير الشافعى الفقىئ العالم الرذائى فى دليله قال شهادتها القافية لاما امر الشهيد بوسعيد
برغم اداءه سلاما باب العلا صاعد بن شهيد قال شهادتها البوينى فضوى ويه بن اعين البطىء
ورغم عيشه امامها اميرنا ابو الحسن عيسى المخجوب قال اعدها عيشه بشهدته
وصحها ابو الحسن القاسمى قال اعدها علار خبره عن حملان عيشه بشهدته علار
ابيه عن لهم امرا في هذين من اصحابها من عيشه برسول الله عليه
صلوات الله عليه وسلم عيشه برسول الله عليه وسلم عيشه برسول الله عليه
خطوة الرسول عليه السلام عيشه برسول الله عليه وسلم عيشه برسول الله عليه
محمد بن ابي زرعه عيشه ودحشته في الماء فما اصابه ما اصابه في حملان عيشه
عيشه برسول الله عليه وسلم عيشه برسول الله عليه وسلم عيشه برسول الله عليه
وسليم بعربي افانة المأرق عيشه برسول الله عليه وسلم عيشه برسول الله عليه
وزرق عيشه بايجتنب ودحشته في الماء فما اصابه ما اصابه في حملان عيشه
قال عيشه اميرها الذي احب السعد العارف بالمسالك والطرق سواريه والسلسل
ما زل عيشه اميرها الذي احب السعد العارف بالمسالك والطرق سواريه والسلسل
الثانية برسول الله عليه وسلم عيشه برسول الله عليه وسلم عيشه برسول الله عليه

النموذج للنسخة الثانية من مكتبة العجم المكي

الاحاديث السبعة

عن سبعة من الصحابة الذين روی عنهم الامام
أبو حنيفة رحمه الله

للإمام الشيخ ناصر السنة أبي المكارم
عبدالله بن حسين بن أبي بكر بن أبي القاسم النيسابوري
الحنفي رحمه الله

ترجمة

نهيم احمد ثقليني



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ الْعَالَمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَرَاجُ الدِّينِ الْحَسِينُ بْنُ الْمَبْارِكِ
 بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى الزَّبِيدِيِّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فِي سَنَةِ ثَلَاثَيْنَ
 وَسَتِ مَائَةٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَالدِّيْ الْمَبْارِكُ اذْنَأَ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمامُ
 نَاصِرُ النَّسَةُ أَبُو الْمَكَارِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسِينِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي القَاسِمِ
 الشَّعْرَى الْنِيْسَابُورِيِّ سَمَاعًا عَلَيْهِ فِي رَجَبِ الْفَرَدِ سَنَةِ ثَمَانِ وَثَلَاثَيْنَ
 وَخَمْسِ مَائَةٍ قَالَ :

أَحْمَدُ رَبِّا عَمِتْ نَفْحَاتِهِ جُودًا وَفَضْلًا وَتَمَتْ كَلْمَاتِهِ صَدَقًا وَعَدَلًا،
 وَأَصْلِي عَلَى الْمَقْتَضِبِ مِنْ نَبْعَةِ الْمَجْدِ الْأَضْخَمِ مَسَاءً وَصَبَاحًا وَبَعْدًا.
 فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ السَّبْعَةُ الْمُسَمَّوْعَةُ لِفَقِيهِ الْأُمَّةِ وَإِمَامِ الْأَئِمَّةِ أَبِي
 حَنِيفَةَ النَّعْمَانَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ سَبْعَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عليهم السلام
 بِالْأَسْنَادِ الصَّحِيحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمامُ مُحَمَّدُ بْنُ مُنْصُورِ الْوَانِي
 فِي شَعْبَانَ سَنَةِ سَتِ وَخَمْسِ مَائَةٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْعَالَمُ
 الزَّوَاهِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاضِيُّ الْإِمامُ الشَّهِيدُ أَبُو سَعِيدٍ بْنَ عَمَادِ الْإِسْلَامِ
 أَبِي الْعَلَاءِ صَاعِدَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مَالِكٍ نَصْرُوِيَّهُ بْنَ أَحْمَدَ
 الْبَلْخِيَّ وَرَدَ عَلَيْنَا حَاجًا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْخَضِيبِ قَالَ:
 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَدْرٍ وَهُوَ أَبُو الْخَضِيرِ الْقَاضِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَلَالُ بْنُ بَدْرٍ
 عَنْ هَلَالِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْإِمامِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ: لَقِيتُ سَبْعَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عليهم السلام وَسَمِعْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ
 مِنْهُمْ حَدِيثًا

(١) لقيت عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي صاحب رسول الله عليهما السلام قلت لأبي: أريد أن أسمع منه فحملني أبي على عاتقه وذهب بي إليه فقال: مات يريد؟ قلت: أريد أن تحدثني حديثاً سمعته من رسول الله عليهما السلام فقال: سمعت رسول الله عليهما السلام يقول: أغاثة الملهوف فرض على كل مسلم، من تفقة في دين الله كفاه الله عنه ورزقه من حيث لا يحتسب.

(٢) ولقيت عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وسمعته يقول: قال رسول الله عليهما السلام: رأيت في عارض الجنة مكتوباً ثلاثة أسطر بالذهب الأحمر لا بماء الذهب: السطر الأول: لا إله إلا الله محمد رسول الله عليهما السلام السطر الثاني: الإمام ضامن والمؤذن مقتمن فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين، والسطر الثالث: وجدنا ما عملنا ربنا حناماً قدمنا خسرنا ما خلفنا قدمنا على رب غفور.

(٣) ولقيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وسمعته يقول: قال رسول الله عليهما السلام: حبك الشيء يعمي ويصم، والدال على الخير كفاعله والدال على الشر كمثله، إن الله يحب أغاثة اللهفان.

(٤) ولقيت أنس بن مالك الأنصاري وسمعته يقول: قال رسول الله عليهما السلام: من قال: لا إله إلا الله خالصاً مخلصاً بها قلبه دخل الجنة، ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماضاً وتروح بطاناً.

(٥) ولقيت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وسمعته يقول: بایعنا رسول الله عليهما السلام على السمع والطاعة، والنصيحة لكل مسلم وسلامة.

(٦) ولقيت معقل بن يسار المزنبي رضي الله عنه وسمعته يقول: قال سمعت رسول الله عليهما السلام يقول: علامة المؤمن ثلاثة، إذا قال صدق،

وإذا وعد وفى، وإذا أؤتمن لم يخن.

(٧) ولقيت وائلة بن الأسعق رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يظن أحدكم أنه يتقرب إلى الله باقرب من هذه الركعات يعني الصلوات الخمس.

كلمات الأحاديث السبعة.

قال أبو حنيفة رحمه الله: لقيت عائشة بنت عجرد رضي الله عنها وسمعتها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجراد أكثر جنود الله عزوجل في الأرض لا يأكله ولا يحرمه. وصلى الله على سيدنا محمد وآل وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

ترجمة:

شیخ امام ناصرالسنة ابوالکارم عبداللہ بن حسین بن ابوبکر بن ابوالقاسم الشعرا الحنفی
غیشاپوری نے کہا کہ یہ سات حدیثیں فقیہ الاممہ امام الائمه امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسناد صحیح کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) سے سمعت کی ہیں۔

ہم کو ہمارے شیخ امام محمد بن منصور الوانی نے شعبان ٥٠٦ھ میں خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو شیخ فقیہ عالم الزواہی نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو قاضی امام شہید ابوسعید بن عمار الاسلام ابوالعلاء صاعد بن محمد نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو ابوالملک فضرویہ بن احمد بن خنی نے خبر دی۔ وہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم کو ابوالحسن علی بن خضیب نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو قاضی ابوالخضر علی بن بدر نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے ہلال بن بدر نے حدیث بیان کی، وہ ہلال بن ابوالعلاء سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد محترم ابوالعلاء سے روایت کرتے ہیں، وہ امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت سے روایت کرتے ہیں۔

امام اعظم ابوحنیفہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ صحابہ کرام سے ملاقات کی اور ان میں سے ہر ایک سے ایک ایک حدیث سنی ہے۔

الحادیث الاول:

لَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثَ بْنَ جَرْءَةَ الرَّبِيْدِيِّ صَاحِبَ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلْتُ لَا بَيْ أَرِيدُ أَنْ أَسْمَعَ مِنْهُ فَحَمَلْنِي أَبِي عَلَىٰ عَاتِقِهِ وَذَهَبَ بِي إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَرِيدُ أَنْ تُحَدِّثَنِي حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ يَقُولُ: إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ فَرْضٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ تَفَقَّهَ فِي دِيْنِ اللّٰهِ كَفَاهُ اللّٰهُ هُمَّةٌ وَرَزْقَهُ مَنْ حَيْكَ لَا يَخْتَسِبُ.

حدیث (۱) امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں: میں نے صحابی رسول حضرت عبد اللہ بن الحارث بن جزء الزبیدی سے ملاقات کی۔ میں نے اپنے والد محترم (حضرت ثابت) سے کہا کہ میں ان سے حدیث ساعت کرنا چاہتا ہوں تو میرے والد محترم مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا: تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا: میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایسی حدیث سنائیں جسے آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

”مصیبت زده کی مدد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور جو شخص دین میں بمحظہ بوجھ حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غمتوں کو کافی ہو جاتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں کا وہ مکان نہیں کر سکتا۔“

حضرت عبد اللہ بن حارث بن جزء زبیدی

اس حدیث شریف میں امام اعظم اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان واسطہ حضرت عبد اللہ بن حارث بن جزء زبیدی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کا پورا نام اور نسب نامہ یہ ہے: عبد اللہ بن حارث بن جزء بن عبد اللہ بن معدیکرب بن عمر و بن عسم زبیدی۔ آپ قبیلہ ابی وداعہ سہی کے حلیف تھے۔ امام بخاری نے کہا آپ کو صحبت رسول حاصل ہے لہذا آپ صحابی ہیں اور مصر میں رہتے تھے۔ آپ نے رسول اللہ ﷺ سے احادیث سنیں اور روایت کی ہیں۔ آپ سے محدثین مصر نے احادیث روایت کی ہیں۔ امام طبری نے کہا کہ

قبل اسلام آپ کا نام ”عاصی“ تھا۔ اسلام لانے کے بعد حضور ﷺ نے آپ کا نام عبد اللہ رکھا۔ ابن یونس سے مروی ہے کہ آپ غزوہ بدر میں شریک تھے۔ اس روایت کے مطابق بدری صحابہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے بھی آپ ہی ہیں اور مصر میں وفات پانے والے صحابہ کرام میں آپ سب سے آخری ہیں۔

امام ابن حجر عسقلانی اور امام سیوطی کے مطابق آپ کا وصال ۹۵ھ یا ۹۶ھ یا ۹۸ھ میں مصر کے مقام سقط القدور میں ہوا جس کا نام امام سیوطی کے زمانہ میں سقط اُبی تراب تھا۔ امام ابن بزار ذکر دری نے آپ کی تاریخ وصال پر مختلف آراء قلم بند کرنے کے بعد سال وصال ۹۹ھ ہجری تحریر کیا ہے۔

امام ابو محمد علی ابن حزم ظاہری (متوفی ۴۵۶ھ) کی تحقیق کے مطابق آپ سے سترہ احادیث مروی ہیں۔ امام ابن بزار ذکر دری کی ایک عبارت سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ نے یہ حدیث دوران حج ساعت کی ہے۔

تخریج:

اس حدیث کی مندرجہ ذیل محدثین نے تخریج کی ہے:

- (۱) مناقب الامام الاعظم أبي حنیفة / ۳۵، امام ابن احمد موفق کی (متوفی ۵۵۶ھ)
- (۲) مناقب الامام الاعظم / ۳/۷، امام ابن بزار ذکر دری (متوفی ۸۲۷ھ)
- (۳) جامع المسانید للامام أبي حنیفة / ۱۸۰، امام محمد خوارزی (متوفی ۲۶۵ھ)
- (۴) أخبار أبي حنيفة وأصحابه / ۲، امام ابو عبد اللہ حسین بن علی صمیری (متوفی ۳۳۶ھ)
- (۵) جامع بیان العلم وفضله / ۱۰۱، امام ابن عبد البر مالکی (متوفی ۳۶۳ھ)

الحدیث الثانی:

وَلَقِيَتْ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ أَنَيْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَمِعَتْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَيْتُ عَارِضَ الْجَنَّةَ مَكْتُوبًا ثَلَاثَةَ أَسْطُرًا بِالذَّهَبِ الْأَحْمَرِ لَا بِمَاءِ الذَّهَبِ: الْسَّطْرُ الْأَوَّلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَالْسَّطْرُ الثَّالِثُ: وَجَدْنَا مَا عَمِلْنَا بِخُنَاحًا مَاقِدْمَنَا خَسِرْنَا مَا خَلَفْنَا، قَدِيمَنَا

عَلٰی رَبِّ غَفُورٍ.

حدیث (۲) امام اعظم کہتے ہیں، میں نے صحابی رسول حضرت عبد اللہ بن انبیس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں نے جنت کے کونے پر خالص سونے سے نہ کہ صرف سونے کے پانی سے تین سطریں لکھی دیکھیں۔ پہلی سطر میں یہ لکھا تھا:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ (اللَّهُ كَسَوَ كُوَيْيَ مَعْبُودُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِنَّ مُحَمَّدٌ نَّبِيُّهُنَّ اللَّهُ كَرِيمٌ رَّبُّ الْعَالَمِينَ) دوسری سطر میں لکھا تھا، امام ضامن ہے اور موذن امانت دار، پس اللہ تعالیٰ ائمہ کو ہدایت دے اور موذنوں کی مغفرت فرمائے اور تیسرا سطر میں لکھا ہوا تھا: ہم نے جو عمل کیا، اس کا صد ہم نے پالیا، ہم نے جو کچھ آگے بھیجا اُس کا نفع پالیا، ہم جو چھوڑ آئے اس کو ہم نے کھو دیا اور ہم رب غفور کے پاس حاضر ہو گئے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن انبیس رضی اللہ عنہ

آپ کا نام عبد اللہ بن انبیس ہے اور کنیت ابو عکیم ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: عبد اللہ بن انبیس بن اسعد بن حرام بن حبیب بن مالک۔

ابن کلبی نے کہا صحابی رسول عبد اللہ بن انبیس مہاجر ہیں انصاری ہیں۔ قبیلہ قضاع جہینیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جن صحابہ کرام نے قبیلہ میں سلمہ کے بت توڑے تھان میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ سے روایت کرنے والوں میں عبد اللہ، جابر بن عبد اللہ انصاری اور تابعین میں عطیہ، عمرو، ضمیرہ اور بسر بن سعید ہیں۔ آپ سے چوبیس احادیث مردوی ہیں۔

بعض کتب میں آپ کی سنن وصال ۵۲۵ھ لکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ امام اعظم کی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔

اس شبہ کا پہلا جواب یہ ہے کہ امام ابن حجر یعنی مکی شافعی کی تحقیق کے مطابق اس نام کے پانچ صحابہ کرام تھے کسی ایک سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے جو ہمارے نزدیک قابل یقین ہو سکتا ہے امام کر دری لکھتے ہیں:

”مناقب میں سند کے ساتھ مذکور ہے کہ امام ابو داؤد طیاری نے فرمایا تھا کہ میں نے امام ابو حنفیہ رضی اللہ عنہ سے سنا تھا کہ حضرت عبد اللہ بن انس رضی اللہ عنہ ۹۲ ہجری میں کوفہ میں ہمارے گھر تشریف لائے تھے اس وقت میں چودہ سال کا تھا میں نے ان سے حدیث سنی تھی۔“
اس روایت کو امام خوارزمی نے جامع المسانید میں، امام موفق نےمناقب الامام الاعظم میں، امام ابن جوزی نے الانتصار والترجیح میں بھی نقل کیا ہے۔

تخریب

مندرجہ ذیل محدثین نے بھی اس حدیث کو اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے:

- (۱)مناقب الامام الاعظم أبي حنفیة / ۱-۳۶، ۳۵۔ امام احمد بن موفق کی، متوفی، ۵۵۶۸
- (۲) التدوین فی أخبار قزوین ۹۱/۳۔ امام ابن محمد رافعی قزوینی (۳) کشف الخفاء و Mizīl al-Bās / ۲۲۷ رقم الحدیث ۵۹۳۔ امام ابوالقداء عجلوی، متوفی ۱۱۶۲ھ (۴)
- فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ۳/۱۵۲۱ امام عبد الرؤف منادی، متوفی ۱۰۳۱ھ)

الحدیث الثالث:

وَلَقِيَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُوفِي رضي الله عنه. وَسَمِعَتْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: حُبُكَ الشَّيْءَ يُعْمَلُ وَيُحْسَمُ، وَالدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلٌ وَالدَّالُ عَلَى الشَّرِ كَوْثِلٌ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِغَاثَةَ الْهَفَانِ.

حدیث (۳) امام اعظم ابو حنفیہ فرماتے ہیں، میں نے عبد اللہ بن ابی اوی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
کسی چیز سے تیری محبت تمہیں اندازا اور بہرا کر دیتی ہے۔ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے اور برائی کی طرف رہنمائی کرنے والا برائی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ کی مدد کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن ابی اوی رضی اللہ عنہ

یہ تیسرا حدیث امام اعظم نے حضرت عبد اللہ بن ابی اوی کے واسطے سے رسول اللہ صلی

الله علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ کا اصل نام عبد اللہ یا علقمہ تھا آپ کی کنیت ابو معاویہ تھی۔ ان کا نسب نامہ یہ ہے:

عبد اللہ یا علقمہ بن خالد بن حرث بن اسد بن رفاعة بن شعبہ بن ہوازن۔

آپ کا تعلق قبیلہ بنو اسلم بن افصی سے تھا۔ ۵ یا ۶ ہجری میں بیعت رضوان سے قبل اسلام قبول کیا۔ آپ کے والد بارگاہ رسالت میں کچھ صدقہ لے کر حاضر ہوئے۔ حضور ﷺ نے صدقہ لے کر تقسیم فرمادی اور دعا کی "اللہ! آل بی او فی پر رحمت نازل فرما۔"

غزوہ خیبر اور فتح مکہ کے علاوہ غزوہ حنین میں آپ نے دادشجاعت دی۔ اس جنگ میں آپ کا ہاتھ بھی شہید ہو گیا۔ ۱۱ ہجری میں رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد چار یا پانچ سال تک مدینہ میں مقیم رہے پھر کوفہ جا کر قبیلہ اسلم کے محلہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آپ نے حضرت علیؑ کے دور میں خوارج سے جنگ کی۔

آپ کا شمار فضلانے مصحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ سے چنانے احادیث مروی ہیں۔ آپ نے طویل عمر کے بعد ۸۷ یا ۸۸ ہجری میں وفات پائی اور کوفہ میں انتقال کرنے والے آپ آخری صحابی ہیں۔

تخریج

اس حدیث کی ان محدثین نے بھی تخریج کی ہے:

- (۱) مناقب الامام الاعظم أبي حنيفة ۱/۳۶۔ امام ابن محمد موقت کی
- (۲) مناقب الامام الاعظم ۱/۰۷۔ امام ابن براز کردری (متوفی ۸۲۷)
- (۳) سوانح بے بہائے امام اعظم، ۲۲۔ شیخ ابو الحسن زید فاروقی دہلوی

الحدیث الرایع:

وَلَقِيَتْ أَنْسَ بْنَ مَالِكَ الْأَنْصَارِيَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَسَمِعَتْهُ يَقُولُ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مُخْلِصًا بِهَا قَلْبُهُ دَخَلَ
الْجَنَّةَ ، وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوْكِيلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو
خَمَاصًا وَتَرُوْخَ بِطَانًا .

حدیث (۲): امام عظیم ابوحنیفہ نے کہا میں نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک
ؑ سے ملاقات کی۔ میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو شخص
خلوصِ دل کے ساتھ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اور اگر تم نے اللہ پر اس**
طرح توکل کیا جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس
طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے وہ خالی پیٹ صبح کرتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس اپنے
گھروں کو لوٹتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک انصاری

آپ کا نسب نامہ یہ ہے: انس بن مالک بن نصر بن ضمیم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن خمار۔ آپ خزریٰ النصاری ہیں۔ آپ کو خادم رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جن سات صحابہ کرام سے کثیر احادیث مروی ہیں (مکثرین من الروایة) ان میں سے ایک ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں دس سال کا تھا۔ میری والدہ محترمہ مجھے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا پا رسول اللہ اسے اپنی خدمت کے لئے قبول فرمائجئے آپ نے انہیں قبول کر لیا۔

آپ نے سات سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت انس بن مالک نے اپنے والدہ کے انتقال کے بعد دو سال کی عمر میں اپنی والدہ کا نکاح خود پڑھایا۔ جنگ بدر کے وقت آپ کی عمر بارہ سال تھی۔ آپ رسول اللہ کی خدمت کر رہے تھے اس لیے آپ کا شمار بدری صحابہ میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غزوۃ خندق، غزوۃ بنو قریظہ، بیعت الرضوان، غزوۃ خیبر، عمرۃ القعدا، غزوۃ حشین اور غزوۃ تبوک میں رسول اللہ کی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا۔ روایت حدیث کے اعتبار سے صحابہ کرام کے اول طبقہ میں سے تھے۔ آپ سے ۱۲۸۶ء، احادیث مروی ہیں۔

ان کی دینی فضیلت و شان کے متعلق کچھ کہنا بہت مشکل ہے البتہ ان کی عام دیاودی
حالت یہ تھی کہ سو سال سے زیادہ عمر ہوئی اور ان کی اولاد بھی ایک سو پچیس سے بڑھ گئی اور آپ
کے کھجروں کا باع غزال میں دو دفعہ پھل دیتا تھا۔ آپ کا ۹۳۶ھ میں ایک سوتین سال کی عمر میں

بصرہ میں انتقال ہوا۔

تخریج

دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

- (۱) مناقب الامام الاعظم أبي حنيفة / ۳۶۱، امام ابن احمد موفق کی، (متوفی ۵۶۸ھ)
- (۲) سنن ترمذی، کتاب الزهد، باب فی التوکل علی اللہ، رقم ۵۷۳/۲

الحدیث ۳۱۶۳

- (۳) سنن ابن ماجہ، کتاب الزهد عن رسول اللہ، باب التوکل والیقین۔ رقم الحدیث ۳۱۶۳، ۱۳۹۲۲

(۴) مسند احمد بن حنبل / ۱/۵۰-۳۰، ۲۲۹، امام احمد بن حنبل (متوفی ۲۳۱ھ)

(۵) مسند طیالسی / ۱-۱۸۱، رقم الحدیث ۳۶۹، امام ابو داود طیالسی (متوفی ۲۰۳ھ)

(۶) مسند حمیدی / ۱-۱۸۱، رقم الحدیث ۳۶۹، امام ابو بکر بن زیر حمیدی (متوفی ۲۱۹ھ)

(۷) مسند أبي يعلى، ۲۱۲/۱، رقم الحدیث ۲۲۷-۲۲۸، امام ابو يعلى احمد مصلی تیسی (متوفی ۲۳۰ھ)

(۸) الآحاد والثانی / ۲-۲۲۹، رقم الحدیث ۲۲۱۳-۲۲۱۴، امام ابن ابی عاصم شیبانی (متوفی ۲۸۷ھ)

(۹) مسند الشهاب / ۲-۳۶۹، رقم الحدیث ۱۳۳۲-۱۳۳۳، امام ابو عبد اللہ بن سلامہ قضاوی (متوفی ۳۵۳ھ)

الحدیث الخامس:

وَلَقِيَتْ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَمِعَتْهُ يَقُولُ: بَايْعَنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنَّصِيْحَةِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ.

حدیث (۵) امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اور میں نے صحابی رسول حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت و فرمانبرداری کی اور ہر مسلمان مرد و عورت کی خیر خواہی کی بیعت کی۔

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ

آپ کے والد کا نام عبد اللہ بن عمر و بن حرام تھا۔ انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ

سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد قبیلے کے رئیسوں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ النصاری ۱۳ ارنبوی میں بیعت عقبہ کبیرہ کے موقع پر ایمان لائے۔ ہجرت نبوی کے وقت آپ کی عمر ۱۹ برس تھی۔ غزوہ بدر واحد میں بہنوں کی حفاظت کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے اس کے بعد عہد رسالت کے تمام غزوات و سرایا میں شرکت کی۔ بیعت رضوا، فتح مکہ اور جنگ صفين میں شرکت کی تھی۔

آپ کاشمار راویان حدیث کے طبقہ اول میں ہوتا ہے دس سال تک زبان رسالت سے سماع حدیث کا شرف حاصل کیا۔ آپ سے ایک ہزار پانچ سو چالیس احادیث مروی ہیں۔ ۷۲ھ ۹۲ سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا۔ آپ کے سال وصال کی وجہ سے امام اعظم سے ملاقات کا ایک جماعت نے انکار کیا ہے۔

تخریج

مندرجہ ذیل چند محدثین نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے:

- (۱) مناقب الامام الا عظیم، ۱/۲۷۔ از امام ابن بزار کردی (متوفی ۸۲۷ھ)
- (۲) صحیح البخاری، ۱/۲۳۔ امام محمد بن سلمان بن بخاری (متوفی ۲۵۶ھ)
- (۳) صحیح المسالم، ۲/۳۶۔ امام مسلم بن الحجاج قشیری (متوفی ۲۶۱ھ)
- (۴) سنن ابو داؤد، ۲/۲۸۲۔ امام ابو داؤد سجستانی (متوفی ۲۷۵ھ)

الحدیث السادس:

وَلَقِيْتُ مَعْقَلَ بْنَ يَسَارَ الْمَزْنَى عَلَيْهِمْ وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَقُولُ: عَلَامَةُ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثٌ إِذَا قَالَ صَدَقَ، وَإِذَا وَعَدَ وَفَى، وَإِذَا أُوْتِمَ لَمْ يَخْتَنَ.

حدیث (۶) امام اعظم ابوحنیفہ فرماتے ہیں اور میں نے صحابی رسول حضرت معقیل بن یسار مرنی شائستہ سے ملاقات کی اور میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ مومن کی تین علامتیں ہیں (۱) جب بولے سچ بولے (۲) وعدہ کرے تو پورا کرے (۳) اور جب اس کو امانت سونپی جائے تو خیانت نہ کرے۔

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ

آپ کا نام معقل اور کنیت ابو عبد اللہ اور ابو یسار ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے:
معقل بن یسار بن عبد اللہ بن معبر بن حراق بن لاہی بن کعب مزنی۔

آپ صلح حدیبیہ سے قبل اسلام لائے اور بیعت رضوان میں حاضر تھے۔ بصرہ کی نہر معقل کھو دنے کا افتتاح آپ نے کیا، اس لیے یہ نہر آپ کے نام سے موسم ہوئی۔
صلح نامہ حدیبیہ لکھنے جانے سے قبل درخت کی ایک شاخ سے آپ حضور پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے حضور ﷺ سے احادیث ساعت کی ہیں۔ آپ سے احادیث روایت کرنے والوں میں عمران بن حصین، عمرو بن میمون اودی، ابو عثمان نہدی اور امام حسن بصری وغیرہ ہیں۔
آپ کی روایت کردہ احادیث صحابہ میں موجود ہیں۔ آپ کے مرویات کی تعداد ۳۲۰ ہے۔

امیر معاویہ کے زمانہ امارت میں بصرہ میں وفات پائی۔ سن وفات ۷۶ھ جری یا ۷۰
جھری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ملاقات تسلیم نہیں کی جاسکتی۔ اس سلسلہ میں صحیح قول یہ ہے کہ اس میں ایک راوی کاذک مردوک ہے لہذا یہ حدیث احادیث سے نہیں ثابت ہے بلکہ یہ یا مرسل روایت کی گئی ہے۔

تخریج

(۱) مناقب الامام اعظم، ۱/۵۷۔ امام ابن بزار کروری (متوفی ۸۲۷ھ)

الحدیث السادس:

وَلِقِيْتُ وَائِلَةَ بْنَ الْأَسْعَقَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَظْكُنُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِأَقْرَبِ مِنْ هَذِهِ الرَّكْعَاتِ يَعْنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ۔

حدیث (۷) امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں اور میں نے حضرت وائلہ بن اسقع رض سے ملاقات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی یہ گمان نہ کر لے کہ وہ ان رکعات یعنی پانچ وقت کی فرض نمازوں سے بڑھ کر کسی اور شے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔

حضرت وائلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ

آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: وائلہ بن اسقع بن کعب بن عامر۔ غزوہ تبوک سے پہلے اسلام قبول کیا اور اس میں شریک ہوئے۔ حضور ﷺ ابو مریم، ابو ہریرہ، ام سلمہ سے احادیث روایت کی ہیں اور حضرت وائلہ بن اسقع سے آپ کی بیٹی نیلہ، ابو ادریس خولانی، شداد ابو عمار، بشر بن عبد اللہ، مکحول اور معروف نے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ اہل صفحہ سے ہیں۔ فتح دمشق و حمص میں بھی شریک ہوئے۔

خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں ۹۸ یا ۱۰۵ برس کی عمر میں ۸۵ ہجری میں وفات پائی۔ آپ سے ۶۵ حدیثیں مروی ہیں۔

تخریج

مزید دو محدثین کرام نے یہ حدیث روایت کی ہے:

(۱) مناقب الامام الاعظم ابی حدیقة، ۳۶۔ امام ابن احمد موفق مکی (متوفی ۵۶۸ھ)

(۲) مناقب الامام الاعظم، ۱۳۷۔ امام ابن براز کروری (متوفی ۸۲۷ھ)

کملت الأحادیث السبعۃ۔ سات حدیثیں مکمل ہوئیں۔

قالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَجِمَةُ اللَّهِ: لَقِيْتُ عَائِشَةَ بُنْتَ عَجْدَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: الْجَرَادُ الْكَثُرُ جُنُودُ اللَّهِ عَرْوَجَلُ فِي الْأَرْضِ لَا أَكْلُهُ وَلَا أَحْرِمُهُ۔

ترجمہ الحدیث: امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے حضرت عائشہ بنت عجدر رضی اللہ عنہا سے ملاقات کی اور میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: زمین میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر مژدی دل ہے۔ میں نہ اسے کھاتا ہوں اور نہ حرام قرار دیتا ہوں۔

حضرت عائشہ بنت عجدر رضی اللہ عنہا

امام اعظم ابوحنیفہ نے جن صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے ان میں واحد صحابیہ حضرت

عائشہ بنت عجر درضی اللہ عنہا ہیں۔ امام کروری۔ نے بھی آپ سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد کے شیخ امام تیجی بن معین (۲۳۳ھ) فرماتے ہیں:

أَبُو حَنِيفَةَ صَاحِبِ الرَّأْيِ قَدْ سَمِعْ مِنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ.

(تاریخ ابن معین ۲۸۰/۳)

ابوحنیفہ صاحب الرائے نے حضرت عائشہ بنت عجر درضی اللہ عنہا سے حدیث سماعت کی ہے۔ بعض علمانے حضرت عائشہ بنت عجر درضی اللہ عنہا کو تابعیات میں شمار کیا ہے لیکن اجل نقاد مشہور محدث امام تیجی بن معین نے حضرت عائشہ بنت عجر درضی اللہ عنہا کا حضور نبی کریم ﷺ سے ساع صراحتاً بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ صَاحِبِ الرَّأْيِ سَمِعَ عَائِشَةَ بِنْتَ عَجْرَدَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(اسان المیزان ۳/۲۲۷) امام ابوحنیفہ صاحب الرائے نے حضرت عائشہ بنت عجر درضی اللہ عنہا کو سنا وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا۔

اس قول کی بنا پر امام اعظم کی حضرت عائشہ بنت عجر درضی اللہ عنہا سے روایت بالکل درست ہے اسی طرح اگر امام اعظم کی تاریخ ولادت قول معروف ۸۰ھ جری کو تسلیم کیا جائے تو تین صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن انس، حضرت جابر بن عبد اللہ النصاری اور حضرت معقل بن بیار ﷺ سے آپ کی لقاء ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود ثقہ اور معتبر محدثین نے ان سے آپ کی لقا اور روایت حدیث کو بیان کیا ہے، اس کی وجہ قرین قیاس ہے کہ انہوں نے آپ کی ولادت کا سال ۶۰ھ کو ترجیح دیتے ہوئے ایسا کیا ہے یا ان سے روایت حدیث کی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم نے ان صحابہ کرام سے ان احادیث کو مرسل روایت کیا ہے۔ حدیث مرسل کی تعریف یہ ہے کہ آخر سند سے تابعی کے بعد کوئی راوی چھوٹ جائے۔

تخریج

مندرجہ ذیل محدثین و مصنفین نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے:

(۱) سنن ابو داؤد باب فی اکل الجراد، رقم الحدیث ۳۸۱۳

(۲) سنن ابن ماجہ، باب صد الحیتان والجراد، رقم الحدیث ۳۲۱۹

(۳) السنن الکبری للبیهقی، رقم الحدیث ۲۵۷، ۹

(۴) مصنف ابن عبدالرزاقي، رقم الحدیث ۸۷۵۷

(۵) جامع المسانید للخوارزمی ۱/۹۶

(۶) المسند رقم الحدیث ۲۵۰۹، امام براز (متوفی ۲۹۲)

امام ابوالکارم عبد اللہ بن حسین نیشاپوری حنفی نے اپنی کتاب الاحادیث البسطة عن سبعة من الصحابة الذين روی عنهم الامام أبو حنيفة رحمه الله. میں جو سات احادیث روایت کی ہیں ان میں امام عظیم اور حضور نبی کریم ﷺ کے درمیان صرف صحابی کا ایک واسطہ ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں محدثین اور اصولیین کا اس بات پر اجماع ہے کہ آئی الصحابة کُلُّهُمْ عَذُولٌ لَّيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ وَلَا ضَعِيفٌ (صحیح ابن حبان ۱۶۲/۱) تمام صحابہ کرام عدول ہیں ان میں کوئی بھی مجروح یا ضعیف نہیں ہے۔ اس متفق اصول کی وجہ سے صحابہ کرام سے براہ راست روایت ہونے کی بنا پر یہ تمام احادیث صحیح ہیں۔

امام عظیم سے مروی ساقوں حدیثوں کے ساتھ دیگر انہم حدیث کی کتب سے تخریج کو بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں حدیث امام عظیم نے تو ایک صحابی سے اپنی سند سے روایت کی مگر اسی حدیث کا متن امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ، امام مسلم نے اپنی سند اور امام ترمذی و دیگر انہم نے اپنی اپنی سند کے ساتھ اپنی کتابوں میں روایت کی ہے۔

متوان حدیث کی مطابقت سے یہ بات تحقیق ہوتی ہے کہ امام عظیم سے مروی تمام روایات صحیح الاسناد ہیں۔


امام عظیم اور دیگر انہم حدیث کی روایت کردہ احادیث میں بنیادی فرق صرف یہ ہے کہ امام عظیم نے براہ راست ایک صحابی سے حدیث لی ہے۔ آپ کے اور حضور ﷺ کے درمیان صحابی کے سوا کوئی اور واسطہ نہیں جب کہ باقی انہم حدیث نے اپنی سند کے ساتھ وہی متن حدیث کئی واسطوں سے روایت کی ہے۔

امام اعظم نے یہ تمام احادیث اس وقت روایت کی تھیں جب نہ صحیح البخاری وجود میں آئی تھی، نہ صحیح مسلم، نہ سفین ترمذی، نہ سفین البی واؤد، نہ سفین نسائی، نہ سفین ابن ماجہ اور نہ مسند احمد بن حنبل حتیٰ کہ ان کتب حدیث کے مصنف بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بعد کے دور میں جب یہ ائمہ حدیث تشریف لائے تو اپنی اپنی الگ سند کے ساتھ انہی احادیث کے متن کو اپنی اسناد کے ساتھ روایت کر دیا جس سے ان کی کتب حدیث معرض وجود میں آگئیں۔

محمد شین کا امام اعظم کی احادیث کے متون کو اپنی جدا جد اسنادوں کے ساتھ لینا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ ضعیف الحدیث نہ تھے بلکہ صحیح الاسناد تھے، ثقہ تھے، عدول تھے، مامون تھے، اصح تھے اور اوثق تھے کیوں کہ جن احادیث کے متون کو آپ نے روایت کیا، انہی متون کو بعد کے ائمہ نے اپنی الگ الگ اسناد کے ساتھ روایت کر دیا۔

اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے جملہ احتفال کو امام اعظم ابوحنیفہ رض کے علمی و روحانی فیوض و برکات عطا فرمائے اور امام اعظم کی صحیح و سچی تقلید کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے اور حنفیت شناسی کا شعور و احساس پیدا فرمائے۔

آمین یا مجیب السائلین بجاه النبی الامین الکریم علیہ افضل
الصلوٰۃ والتسلیم




ترجم صحابہ کرام کے مراجع و مصادر

- (١) أَسْمَاءُ الصَّحَابَةِ اِمَامُ اِبْنِ حَزْمٍ ظَاهِرِيُّ اِنْدُلُسِيٌّ
(متوفى ٣٥٦ھ) مكتبة القرآن قاهرة، مصر
- (٢) الْاسْتِيعَابُ فِي مَعْرِفَةِ الاصْحَابِ۔ اِمَامُ اِبْنِ عَبْدِ الْبَرْنَرْيِيِّ مَالِکِ قُرْطَبَیِّ
(متوفى ٣٦٣ھ) مكتبة مصر فجالة قاهره
- (٣) الْاِصَابَةُ فِي تَمْيِيزِ الصَّحَابَةِ۔ اِمَامُ اِبْنِ جَرْعَسْقَلَانِيِّ
(متوفى ٨٥٢ھ) مكتبة مصر فجالة قاهره
- (٤) مَنَاقِبُ الْاِمَامِ الْاعْظَمِ۔ اِمَامُ اِبْنِ بَزَّازِ كَرْدُورِيِّ
(متوفى ٨٢٧ھ) دائرة المعارف حیدر آباد دکن
- (٥) تَدْرِيبُ الرَّاوِيِّ فِي شَرْحِ تَقْرِيبِ النَّوَافِيِّ۔
امام جلال الدين سيوطي (متوفى ٩١١ھ) دارالحدیث قاهره مصر



اصلاح حال و قال احسن فکر و نظر پرمنی مکتبہ امام عظیم کی نازہ ترین کتاب

آن بیکار کرام، خلفاء راشدین، صحابہ کرام اور صوفیاء طریقہ
کی دنیا سے بے غبیتی اور بے تعلقی پر مشتمل منفرد عربی کتاب



اردو

تقویٰ کی حقیقت اور احادیث رسول

تألیف

حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ تبلیغی

علیہ الرحمۃ والرضوان

ترجمہ

قیمت

200/-

صفحات

480

شاہ محمد پیری قصروی زینیابی

مکتبہ امام عظیم دہلی

۲۲۵/۲ - اردو مارکیٹ، میانگل جامع مسجد دہلی

Mob.: 9958423551, 9560054375

E-mail ID : nizamuddinnizami@gmail.com, razavikitabghan@gmail.com



اصلاح فکر و اعتقاد پرستیل مکتبہ امام اعظم کی نازہ ترین کتاب

علمائے حرمین شریفین مکہ معظمه اور مدینہ منورہ کی طرف سے اعلیٰ حضرت محدث بریلوی کی
اعتقادی اور علمی خدمات کا اعتراف

حسام الحدیث مع تمہید الانسان

تألیف

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان
ترجمہ

میں احکام و قصیدات اعلام

حضرت مولانا حسین رضا قادری بریلوی

صفحات

208

قیمت

90/-

آن جہی آنڑو دے کر منی گائیں



مکتبہ امام اعظم رہلی

۲۲۵/۲ - اردو مارکیٹ، میڈیا محل، جامع مسجد دہلی

Mob.: 9958423551, 9560054375

E-mail ID : nizamuddinnizami@gmail.com, razavikitabghar@gmail.com

انہیاے کرام، خلائقے اشدن، معاشر کرام اور صوفی، طریقہ
کی دنیا سے بے رخصتی اور بے تعلق پر مشتمل منفرد علمی کتاب

الزہدان

تفویٰ کی حقیقت اور احادیث رسول
تألیف

حضرت (رض) علیہ السلام بنی اسرائیل نبی موسیٰ علیہ السلام
ترجمہ شاہ جوینی ترمذی بنی اسرائیل

آج ہی آرڈر کر حاصل کریں،
دیگر تمام دینی کتابوں کے لئے رابطہ کریں

امام اعظم ابو حنیفہ کی محدثانہ عقائد
اور سات صحابہ کے درست

اُن کی ساتھ احادیث کی روایات و رواہ کا تعارف

الاعلام الحدیث

تقدیم و ترجمہ مع جتنی

الاحادیث السبعۃ عن سبعة من الصحابة
الذین روى عنهم الاعلام أبو حنیفہ رضی اللہ عنہ

تألیف ناصر الشافعی ابوالکاظم عبد اللہ بن حسین تفسییری

تحمیل فہیم احمد شبلینی ازبری تحریک محمد ظفر الدین برکاتی

40/=

قیمت

64 Pages
only

صفحات

تکمیل

رضوی کتاب کمپنی



۳۲۳ رازی کتاب گاریٹ میٹیا محل جامع مسجد دہلی

Contact No. : Mob.: 9958423551, 9560054375, Nizam = 9582458244,

E-mail : maktabaimameazam@gmail.com, nizamuddinnizami@gmail.com, razavikitabghar@gmail.com

دہلی میں فقہ اسلامی، افکار امام اعظم
اور عقلاء مولانا تابل سنت کی شاعت و تعداد کا نامہ کتاب خانہ

مکتبہ امام اعظم دہلی

صفحات

480 Pages
only

قیمت

200/=

معہد علیہ السلام بنی اسرائیل
تکمیل حضرت بزرگ بنی اسرائیل



علماء حرمین شریفین مکمل عظیم اور مدیرہ منورہ کی طرف سے
اعلیٰ حضرت محدث بریلوی کی اعتقادی اعلیٰ خدمات کا اعتراف

حسام الحرمین تمهید المیان

تألیف

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری محدث بریلوی

ترجمہ مبنی ان احکام و تصدیقات اعلام علی الحمد والرحمن

حضرت مولانا حسین رضا قادری بریلوی

90/=

قیمت

208 Pages
only

صفحات

مکتبہ امام اعظم دہلی

کاشش

Publisher

MAKTABA IMAME AAZAM

425/2, Urdu Market, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi - 110006

Contact No. 9958423551, 9560054375, Nizam - 9582458244,

E-mail : maktabaimameazam@gmail.com, nizamuddinnizami@gmail.com

₹ 40/=